

[AS INTRODUCED IN NATIONAL ASSEMBLY]

**A
Bill**

*to comprehensively manage and regulate water resources in
the Islamabad.*

It is necessary to manage water resources in the Islamabad effectively through a comprehensive legislation encompassing water governance, its allocation, sustainable use, conservation, recharge, management and pricing of water resources; abstraction from and disposal of water from the controlled waters; and the ancillary matters.

It is hereby enacted as follows:

1. **Short title, extent and commencement.**— (1) This Act may be called as the Islamabad Water conservation Act 2022,
 - (2) It extends to whole of ICT..
 - (3) It shall come into force at once.
2. **Definitions.**— In this Act:
 - (a) “Act” means the Islamabad Water Conservation Act 2021;
 - (b) “Authority” means the Islamabad Water Services Regulatory Authority established under section 3 of this Act;
 - (d) “Government” means Federal Government;
 - (e) “local authority” means a:
 - (i) land control authority established by law for the time being in force to regulate or manage land use; or
 - (ii) company set up by the Government to provide land-based services;
 - (f) “meter” means any approved apparatus for measuring or showing the volume of water supplied to, or of effluent discharged from any premises;
 - (g) “person” includes an undertaker, an authority or a company;

- (h) prescribed” means prescribed by the rules or the regulations made or framed under this Act;
- (i) “rules” means the rules made under this Act; and
- (j) “regulations” means the regulations framed under this Act.

3. Islamabad Water Services Regulatory Authority.—

(1) There shall be a body corporate to be called the Islamabad Water Services Regulatory Authority for the purposes of carrying out the functions conferred on it by this Act or by any other law for the time being in force.

(2) The Authority shall consist of the following:

- (a) Minister for Interior Chairperson
ex officio
- (b) a Deputy Chairperson to be appointed by the Federal Government having the background or specialisation in water conservation and such other qualification as may be Member
- (c) five members of Parliament of whom three shall be from National Assembly and two from the Senate to be nominated by the Presiding Officer of the respective Member
- (d) four members to be appointed by the Federal Government to represent the Federal Ministries and government departments of Agriculture Research, Finance, Capital Development Authority and local government departments respectively; Member
- (e) Secretary to the Government, Environment Protection Department; Member
- (f) Secretary to the Government, Industries, Commerce and Investment Department; Member
- (g) Secretary to the Government, National Health Services Department; Member

- | | | |
|-----|-----------------------------------|----------------------|
| (h) | a water quality expert; | Member |
| (i) | a public health expert; and | Member |
| (j) | Director General of the Authority | Member/
Secretary |

4. Duties and powers of the Authority.— (1) The Authority shall:

- (a) The Authority shall formulate and execute a comprehensive action plan for the conservation of water of rivers, ground and rainwater throughout ICT and perform such other functions relating to water conservation as may be assigned to it by the Federal Government.
- (b) ensure that the duties and functions of water undertakers and sewerage undertakers are discharged in accordance with this Act or any other law for the time being in force;
- (c) revise tariffs set by water and sewerage undertakers, if deemed necessary, as per the prescribed procedure.

(2) Without prejudice to the generality of the provisions of sub-section (1) the action plan for the conservation of water may also include,—

- (a) building adequate number of reservoirs at conspicuous places in different parts of the ICT;
- (b) building recharge shafts and construction of sufficient number of trenches at appropriate places;
- (c) building permanent water conservation structures and provision for recycling of wastewater;
- (d) desiltation of existing reservoirs, ponds, canals and such other water bodies;
- (e) recharging shafts for dried up borewells, village ponds and hollows;
- (f) reviving all the lost ponds and lakes;
- (g) encouraging people to participate in water conservation in particular school children and villagers to build water conservation structures;
- (h) advising the Government to make rain water harvesting compulsory in all Government

buildings, public parks and places, households and establishments and educate the masses about rainwater harvesting;

(i) giving wide publicity through radio, videos, pamphlets, booklets, hoardings, and through print and electronic media the importance of water conservation;

(j) encouraging tree plantation as a movement;

(3) The Authority shall exercise and perform the powers and duties mentioned in subsection (1) in a well calculated manner which may be prescribed:

(a) to further the consumer objective;

(b) to ensure that the functions of water undertaker and of a sewerage undertaker are properly carried out;

(c) to secure that bodies or companies holding appointments as water undertaker or sewerage undertaker are able to finance the proper carrying out of water and sewerage services under this Act; and

(d) to ensure that the activities authorized under the license of water abstraction or license of water disposal are properly carried out in addition to any other duty imposed for the said purposes under any other law for the time being in force.

(4) For the purpose of clause (a) of subsection (2), the Authority shall have regard to the interests of *inter alia*:

(a) individuals who are disabled or chronically sick;

(b) individuals of old age;

(c) individuals with low incomes;

(d) individuals residing in rural areas; and

(e) customers of companies, holding an appointment of undertaker, whose premises are not eligible to be supplied by a licensed water supplier.

(5) Subject to subsection (2), the Authority shall exercise and perform the powers and duties mentioned in subsection (1) in a well calculated manner which may be prescribed:

- (a) to promote economy and efficiency on the part of bodies or companies holding an appointment as an undertaker;
- (b) to secure that no undue preference is shown, and that there is no undue discrimination in the fixing, by such companies, of water and drainage charges;
- (c) to ensure that the interests of every person who is a customer or potential customer are protected as respects the fixing and recovery of that undertaker of:
 - (i) charges in respect of any services provided in the course of carrying out the functions of a water undertaker or sewerage undertaker; and
 - (ii) amounts of any other description which such an undertaker is authorized by or under any law to require such a person to pay; and
- (d) to ensure that the interests of every such person are protected as respects the other terms on which any services are provided and as respects the quality of those services.

5. Director General of the Authority.— (1) The Authority shall have a Director General who shall be appointed by the Government on such terms and conditions as may be prescribed, and shall be responsible for the due discharge of the work of the Authority.

(2) The Director General shall be assisted in his work by such number of officers and staff as is determined by the Government.

6. Water Undertakers and Sewerage Undertakers.—

(1) The Government may appoint a company, a local government or a statutory authority to be the water undertaker or sewerage undertaker for any area.

(2) The appointment of a company, local government or a statutory authority to be a water undertaker or sewerage undertaker shall be by an instrument in writing containing the

appointment, including the terms and conditions thereof, and describing the area for which it is made:

provided that no appointment shall be made beyond the area in which the company, local government or statutory authority may by law operate.

7. Enforcement orders.— (1) Where in the case of any company holding an appointment as water undertaker or sewerage undertaker, the Authority is satisfied that:

(a) such company is contravening:

(i) any condition(s) of the appointment of the company in relation to which it is the enforcement authority; and/or

(ii) any statutory requirement which is enforceable, and in relation to which it is the enforcement authority; and

(b) such company has contravened any such condition or requirement and there is an apprehension that such company may repeat the contravention, the Authority shall by a provisional order make such provision as may be required for the purpose of securing compliance with that condition or requirement.

(2) Where an order has been passed under subsection (1), and its noncompliance is likely to have a serious impact on the provision of water or sewerage services including impact on health and hygiene of the public, the Authority shall inform the Government of such order and the consequences of its non-compliance.

(3) Before making a final order or confirming a provisional order, the Authority shall give a notice:

(a) stating that it proposes to make a final order or confirm the provisional order and setting out the effect of the order; and

(b) setting out:

(i) the conditions or requirements for the purpose of securing compliance of such order;

- (ii) the acts of omission or commission which in its opinion constitute or would constitute contravention of such conditions or requirements; and
- (iii) the other facts which in its opinion justify the passing of such order.

(4) A final or provisional order:

- (a) shall require the company, to which it relates, to do or not to do such things as are specified in the order;
- (b) shall take effect at such time, being the earliest practicable time, as is determined by or under the order; and
- (c) may be revoked or modified by the Authority or the Government.

(5) The obligation to comply with a final or provisional order shall be a duty owed both to the Authority and to any person who may be affected by the contravention of such order.

8. Register of undertakers.— The Authority shall, in the prescribed manner, maintain in paper and in electronic form, a register of the following information:

- (a) every appointment made under this Act;
- (b) every termination of any such appointment;
- (c) every variation of the area for which any company holds any such appointment;
- (d) the conditions of any appointment;
- (e) enforcement orders;
- (f) every undertaking given to and accepted by the Authority or the Government; and
- (g) details of abstraction licenses or disposal licenses granted to water undertakers and sewerage undertakers by the Authority.

9. Power to assign services.— (1) Subject to subsection (2), an undertaker may assign water and/or sewerage services to a company registered for the purpose of provision of water and/or sewerage services or a local authority, temporarily or for a specified period, by way of a written agreement executed with the Authority.

(2) An undertaker shall obtain prior permission of the Authority and local government before making an assignment where the undertaker is not the local government itself.

(3) An assignee shall act on behalf of the undertaker, and the undertaker shall continue to be responsible for the due discharge of services in accordance with the provisions of this Act.

(4) Notwithstanding anything contained in the written agreement, the Authority may require the undertaker to perform the services directly where it determines that the assignee is likely to fail or has failed to act according to the provisions of this Act.

10. Duties of water undertakers.— (1) Every water undertaker shall develop and maintain an efficient and economical system of water supply within its area and to ensure that all such arrangements have been made for:

- (a) providing supplies of water to premises in that area and for making such supplies available to persons who demand them; and
- (b) for maintaining, improving and extending the water mains and other pipes.

(2) The Government may, by regulations, prescribe such standards of performance in connection with the provision of water as in its opinion ought to be achieved, and such regulations may provide that if a water undertaker fails to meet a prescribed standard it shall pay such amount, as may be prescribed, to any person who is affected by the failure.

11. Duty to provide supplies for domestic purposes.—

(1) Every water undertaker shall provide a water main to be used for supplies of water to a premises in a particular locality in its area, if the water undertaker is required to provide such water main, by a notice, served upon the water undertaker by one or more persons who are entitled under subsection (2) to receive water supply through such mains.

(2) The following persons shall be entitled to require the provision of water supply under subsection (1):

- (a) the owner of premises approved by the local authority;

- (b) a housing society duly approved by the local authority;
- (c) the concerned local government; or
- (d) any other person as specified by the regulations.

(3) The water undertaker shall not be in breach of his obligations under subsection (1) if the applicant does not provide an undertaking to pay, to the water undertaker, costs reasonably incurred in providing the main over a prescribed period of time.

(4) Any dispute between a water undertaker and any other person regarding costs to be paid shall be referred to the arbitration of a single arbitrator by agreement between the water undertaker and that person and in default of such agreement the dispute shall be finally and conclusively decided by the Authority.

12 Supply of water for non- domestic purposes.— (1) Every water undertaker shall provide a water main to be used for providing supplies of water to duly approved industrial premises in a particular locality if the water undertaker is required to provide the main, by a notice, served upon the water undertaker by one or more persons who are entitled under subsection (2) to get water supply through mains.

(2) The following persons shall be entitled to require the provision of water under subsection (1):

- (a) the owner of an industrial premises duly approved by the local authority;
- (b) an industrial estate established by the Government; and
- (c) the local government.

(3) A water undertaker shall not be required by virtue of this section to provide a new supply to industrial premises if:

- (a) the supply of water requires him to incur unreasonable expenditure in carrying out works;
- (b) it puts at risk the ability of the water undertaker to meet any of its existing or probable future obligations to supply water for domestic or other purposes;
- (c) there is a contravention in relation to the water fittings used or to be used in connection with the

supply of water to those premises or with the use of water in those premises; and

- (d) if arrangements of industrial premises for disposal of waste water or trade effluent from such premises are not in accordance with the provisions of this Act or the regulations made thereunder.

(4) The water undertaker shall not be in breach of his obligations under subsection (1) if the applicant does not provide an undertaking to pay, to the water undertaker, costs reasonably incurred in providing the main over a prescribed period of time.

(5) Any dispute between a water undertaker and any other person regarding costs to be paid shall be referred to the arbitration of a single arbitrator by agreement between the water undertaker and that person, and in default of such agreement by the Authority.

13. Duty to supply water for other public purposes.—

(1) A water undertaker shall, at the request of a sewerage undertaker, road authority or local authority, provide for such of its pipes as are of an appropriate capacity to supply water for cleansing sewers and drains, for cleansing and watering highways, for supplying any public pumps, baths or wash houses, for maintaining parks and green areas and for such other public purposes as may be necessary.

(2) A supply of water provided by a water undertaker under this section shall be provided upon such terms as may be reasonable.

14. Constancy and pressure of water supplies.—

(1) It shall be the duty of water undertaker to cause the water in such of its water mains and other pipes, which are used for providing supplies of water for domestic purposes, to be run with such constancy and at such pressure as shall cause the water to reach such height as may be required by the Authority.

(2) Nothing in subsection (1) shall impose any duty on a water undertaker to maintain the constancy or pressure of any supply of water during any period during which it is reasonable

for that supply to be cut off or get reduced for the purposes of the carrying out any necessary works.

(3) The obligations of a water undertaker under this section shall be enforceable under the provisions of this Act.

(4) Where a water undertaker is in breach of a duty under this section, the water undertaker shall be guilty of an offence and shall be liable, on conviction, to a fine which may extend to rupees five hundred thousand.

(5) In any proceedings against any water undertaker for an offence under subsection (4), it shall be a defence for that undertaker to show that it took all reasonable steps and exercised all due diligence to avoid the commission of the offence.

15. Quality and sufficiency of water supplies.— (1) It shall be the duty of a water undertaker that:

- (a) while supplying water to any premises for domestic purposes to supply only water which is wholesome at the time of supply; and
- (b) so far as reasonably practicable, to ensure, in relation to each source or combination of sources from which that water undertaker supplies water to premises for domestic purposes, that there is in general no deterioration in the quality of water which is supplied from time to time from that source or combination of sources.

(2) For the purposes of this section, water supplied by a water undertaker to any premises shall not be regarded as unwholesome at the time of supply where it has ceased to be wholesome only after leaving the pipes laid and maintained by the water undertaker.

(3) The obligations of a water undertaker under this section shall be enforceable under the relevant section of this Act.

(4) Where a water undertaker is in breach of a duty under this section, the water undertaker shall be guilty of an offence and liable, upon conviction, to a fine which may extend to rupees five hundred thousand.

16. Quality of water.— (1) The Government may, by regulations, require a water undertaker to take all such steps as may be prescribed for securing compliance with section 15 of the Act.

(2) Without prejudice to the generality of the powers conferred under subsection (1), the Government may impose an obligation on a water undertaker to:

- (a) take all such steps as may be prescribed for monitoring and recording whether the water which that water undertaker supplies to premises for domestic purposes is wholesome at the time of supply;
- (b) take all such steps as may be prescribed for monitoring and recording the quality of water from any source, or combination of sources which that water undertaker uses or is proposing to use for supplying water to any premises for domestic purposes;
- (c) ensure that a source which that water undertaker is using or is proposing to use for supplying water for domestic purposes is not so used until prescribed requirements for establishing the quality of water which may be supplied from that source have been complied with;
- (d) keep records of the localities within which all the premises supplied with water for domestic purposes by that water undertaker are normally supplied from the same source or combination of sources; and
- (e) comply with prescribed requirements with respect to analysis of water samples or with respect to internal reporting or organizational arrangements.

19. Power to disconnect service pipes and cut off supplies.— (1) Subject to the provisions of this section, a water undertaker may disconnect a service pipe, which, for the purposes of providing supply of water to any premises, is

connected with any water main of that water undertaker or may otherwise cut off a supply of water to any premises if:

- (a) it is reasonable for the disconnection to be made or the supply of water be cut off for the purposes of carrying out any necessary works; and
- (b) the occupier of the premises is liable to pay charges, due to the water undertaker, in respect of the supply of water to such premises and has failed to pay such charges within a period of fifteen days of service of the notice requiring him to pay such charges.

(2) Where a water undertaker exercises its power by virtue of clause (a) of subsection (1), and effects a disconnection for purposes of carrying out any necessary works, it shall owe a duty to the occupier of the premises to ensure:

- (a) that such necessary works are carried out with reasonable dispatch; and
- (b) that, only after an emergency water supply has been made available, whether or not through pipes, for domestic purposes, and any supply of water to such premises is not interrupted for more than 24 hours for the purpose of carrying out of those necessary works.

(3) Where a water undertaker has served a notice under clause (b) of subsection (1) on a person, who within the period of fifteen days of the receipt of such notice, furnishes a reply to such notice disputing his liability to pay the charges demanded, the water undertaker shall not exercise its power to disconnect the water supply unless so authorized by the Authority after determination of liability or by order of a court.

(4) If a water undertaker disconnects a service pipe to any premises or otherwise cuts off a supply of water to any premises in case in which it has no power to do so under this section or fails to connect such service pipe or restore such supply, shall be guilty of an offence punishable with fine which may extend to rupees one hundred thousand.

20. Offence of supplying water unfit for human consumption.— (1) Subject to subsection (2), where a water undertaker supplies water by means of pipes to any premises

and that water is unfit for human consumption, the water undertaker shall be guilty of an offence, and shall be liable, upon conviction, to a fine not exceeding rupees five hundred thousand.

(2) Where a person authorized to stop a supply of water finds that the supply is unfit for human consumption and continues to authorize supply of such unfit water, the person shall be guilty of an offence punishable with fine and/or imprisonment which may extend to three months.

(3) In any proceedings against a water undertaker for an offence under this section, it shall be a defense for that undertaker to show that it:

- (a) had no reasonable grounds for suspecting that the water was to be used for human consumption; and
- (b) took all reasonable steps and exercised all due diligence in securing that the water was fit for human consumption on leaving its pipes or was not used for human consumption.

21. Provision of water where piped supplies insufficient or unwholesome.— (1) Where:

- (a) it is not practicable, at reasonable cost, for a water undertaker to provide wholesome water in pipes or to maintain such a supply of wholesome water, to any particular premises in its area as is sufficient for domestic purposes;
- (b) it is practicable, at reasonable cost, for the water undertaker to provide such a supply of wholesome water for domestic purposes to those premises otherwise than in pipes;
- (c) the insufficiency or unwholesomeness of the supply of water for domestic purposes is such as to cause a danger to life or health; and
- (d) the local authority notify the water undertaker of that danger and require the water undertaker to provide a supply otherwise than in pipes;

it shall be the duty of the water undertaker, for such period as may be required by the local authority and where it is practicable at

reasonable cost, to provide water otherwise than in pipes.

(2) In this section, reference to the provision of a supply of water to any premises otherwise than in pipes shall have effect, in a case in which it is practicable for the water undertaker to provide a supply of water, whether or not in pipes, at reasonable cost, to a place within a reasonable distance of those premises, as including reference to the provision of a supply of water to those premises.

22. Permission to abstract water directly.— (1) Where:

- (a) it is not practicable, at reasonable cost, for a water undertaker to supply water in pipes;
- (b) ground water is not unwholesome such as to cause any danger to life or health of a person;

the water undertaker may allow a person, through a sub-license, to abstract water from within his premises or from an area in close proximity thereof for his domestic purposes only.

(2) A sub-license issued under subsection (1) shall be granted in accordance with any conditions that the authority may impose on such sub-licenses specifically or generally.

(3) Water abstracted under a sub-license under subsection (1), shall form part of the overall abstraction limit granted to a water undertaker under an abstraction license issued by the authority.

23. Offences of contaminating, wastage and misuse of water.—

(1) If any person who is the owner or occupier of any premises to which a supply of water is provided by a water undertaker, intentionally or negligently, causes or suffers any water fitting for which he is responsible to be or remain so out of order, so in need of repair or so constructed or adapted or to be used:

- (a) that water in a water main or other pipes of a water undertaker or in a pipe connected with such water main or pipe, is or is likely to be contaminated by the return of any substance from those premises to that main or pipe;

- (b) that water that has been supplied by the water undertaker to those premises is or is likely to be contaminated before it is used; or
- (c) that water so supplied is or is likely to be wasted, or having regard to the purposes for which it is supplied, misused or unduly consumed;

that person shall be guilty of an offence and liable, upon conviction, to a fine not exceeding rupees one hundred thousand.

(2) Any person who uses any water supplied to any premises by a water undertaker for a purpose other than the one for which it is supplied shall, unless the other purpose is the extinguishment of fire, be guilty of an offence and liable, upon conviction, to a fine not exceeding rupees two hundred thousand.

24. Prevention of contamination and waste etc.— (1)

The Government may, by regulations, make such provisions as it considers appropriate for any of the following purposes:

- (a) For securing that water in a water main or other pipes of a water undertaker is not contaminated, and that its quality and suitability for particular purposes is not prejudiced, by the return of any substance from any premises to that main or pipe;
- (b) For preventing the wastage, undue consumption and misuse of any water at any time after it has left the pipes of a water undertaker for the purpose of being supplied by that water undertaker to any premises; and
- (c) For securing that water fittings installed and used by persons to whom water is or is to be supplied by a water undertaker are safe and do not cause or contribute to the erroneous measurement of any water or the reverberation of any pipes.

(2) Without prejudice to the generality of the power contained in subsection (1), regulations made under this section may also make provision for the following:

- (a) For forbidding the installation, connection or use of the pipe related fittings if they have not been approved under the regulations or if they contravene the regulations;
 - (b) For requiring the fittings for the purpose of provision made by virtue of sub section (2) (a) to be of such a size, nature, strength or workmanship, to be made of such materials or in such a manner or to conform to such standards as may be prescribed or approved under the regulations;
 - (c) For imposing such other requirements as may be prescribed with respect to the installation, arrangement, connection, testing, disconnection, alteration and repair of the fittings and with respect to the materials used in their manufacture;
 - (d) For according, refusing and revoking, by prescribed persons, of the approvals required for the purposes of regulations; and
 - (e) For such approvals and revocations as capable of being made under the Act.
- (3) Without prejudice as aforesaid in sub section (1) and (2), regulations under this section may:
- (f) impose separate or concurrent duties with respect to the enforcement of the regulations;
 - (g) confer powers on a water undertaker or a local authority to carry out works and take other steps, in prescribed circumstances, for remedying any contravention of the regulations;
 - (h) provide for the recovery by a water undertaker or local authority of expenses reasonably incurred by the water undertaker or local authority in the exercise of any powers conferred under sub section (3) (b) above;
 - (i) provide for a contravention of the regulations to constitute an offence punishable with fine not exceeding Rs 100,000 or such smaller sum as may be prescribed;

- (j) require the disputes arising because of application of the regulations to be referred to arbitration in suitable cases; and
- (k) provide for a right of appeal in appropriate cases.

25. Powers to prevent damage, contamination and waste etc.— (1) Without prejudice to any power conferred upon the water undertaker by regulations under this Act, where a water undertaker providing a supply of water to any premises, has reason to believe that:

- (a) the damage to person or property is being or is likely to be caused by any damage to, or defect in, any water fitting used in connection with the supply of water to those premises which is not a service pipe belonging to the water undertaker;
- (b) the water in a water main or other pipe of the water undertaker is being or is likely to be contaminated by the return of any substance from those premises to that main or pipe;
- (c) the water which is in any pipe connected with any such main or other pipe or which has been supplied by the water undertaker to those premises is being or is likely to be contaminated before it is used; or
- (d) the water which has been or is to be so supplied is being or is likely to be wasted or, having regard to the purposes for which it is supplied, misused or unduly consumed;

the water undertaker may exercise the power conferred upon it by subsection (2) in relation to such premises.

(2) The powers in relation to subsection (1) are:

- (a) where the case constitutes an emergency, power to disconnect the service pipe or otherwise to cut off the supply of water to those premises; and
- (b) in any other case, power to serve notice on the consumer requiring them to take such steps as may be specified in the notice as necessary to secure the system of the water undertaker and

that damage, contamination, wastage, misuse or undue consumption ceases or, as the case may be, does not occur.

(3) Where a water undertaker, in exercise of the power conferred under clause (a) of subsection (2), disconnects a service pipe to any premises or otherwise cuts off any supply of water to any premises, the water undertaker shall, as soon as reasonably practicable after the supply is disconnected or cut off, serve a notice on the person specifying the steps which that person is required to take before the water undertaker restores the water supply to that premises.

(4) The steps specified in the notice under subsection (3) shall be the steps necessary to secure that, as the case may be:

(a) the damage, contamination, wastage, misuse or undue consumption; or

(b) the likelihood of damage, contamination, wastage, misuse or undue consumption,

shall not recur if the supply is restored, and a water undertaker which fails, without reasonable excuse, to serve the notice in accordance with the requirements of subsection (4) shall be guilty of an offence and liable, on summary conviction, to a fine not exceeding rupees ten thousand.

(5) A notice served for the purposes of clause (b) of subsection (2) shall:

(a) specify the period, not being less than seven days of the service of the notice, within which the steps specified in the notice are to be taken by the consumer; and

(b) set out the powers of the water undertaker under subsection (6) and (7).

(6) Where a water undertaker has served a notice under clause (b) of subsection (2) in relation to any premises, and:

(a) the case becomes an emergency; or

(b) the premises appears to be unoccupied and the steps specified in the notice are not taken before the expiry of the period so specified;

the water undertaker may disconnect the service pipe to those premises or otherwise cut off the supply of water to those premises; and subsections (3) and (4)

shall apply where a water undertaker exercises its power under this subsection as they apply where such an undertaker exercises its power by virtue of under clause (a) of subsection (2).

(7) Where, in a case not falling within clause (a) or clause (b) of subsection (6), any steps specified in a notice served by the water undertaker under clause (b) of subsection (2) have not been taken by the consumer by the end of the period so specified, the water undertaker shall have power to take such steps itself, and subject to subsection (8), to recover any expenses reasonably incurred by the water undertaker in taking those steps from the consumer on whom the notice was served.

(8) Where any steps are taken by virtue of subsection (7) and it is shown that, in the circumstances of the case, those steps were not necessary as mentioned in subsection (2) or, as the case may be, subsection (4), such water undertaker:

- (a) shall not be entitled to recover any expenses incurred by it in taking those steps; and
- (b) shall be liable to pay to any other person who took any of those steps an amount equal to any expenses reasonably incurred by that person in taking any of those steps.

26. Standards of Wholesomeness.— (1) The Government may, by regulations, make provisions that the water supplied to any premises is or is not to be regarded as wholesome for purposes of this Act, if it satisfies or, as the case may be, fails to satisfy such provisions as may be prescribed.

(2) Without prejudice to the generality of subsection (1), regulations under this section may, for the purpose of determining the wholesomeness of any water shall:

- (a) provide general requirements as to the purposes for which the water is to be suitable;
- (b) provide specific requirements as to the substances that are to be present in or absent from the water, and as to the concentrations of substances which are or are required to be present in the water;
- (c) provide specific requirements as to other characteristics of the water;

- (d) provide that the question whether prescribed requirements are satisfied may be determined by reference to such samples;
- (e) enable the Government to authorize such relaxations of and departures from the prescribed requirements, to make any such authorization subject to any conditions thereof and to modify or revoke any such authorization or conditions; and
- (f) enable the Government to authorize a local authority, either instead of the Government or concurrently with it, to exercise any power conferred on the Government by regulations framed under clause (e) of subsection (2).

27. Maps of water mains etc.— (1) Subject to subsection (4), it shall be the duty of the Authority and every water undertaker to keep record of:

- (a) every resource main, water main or discharge pipe used by the water undertaker; and
- (b) any other underground works, other than a service pipe, which are owned or operated by the water undertaker.

(2) It shall be the duty of the Authority and of every water undertaker to ensure that the contents of any records for the time being kept by it under this section are updated and available, at all reasonable times, for inspection by the public free of charge at an office of the Authority or as the case may be of the water undertaker.

(3) Any information which is required under this section to be made available, by the Authority or a water undertaker, for inspection by the public shall be so made available in the form of a map.

(4) For the purposes of determining whether any failure to make a modification of any records kept under this section constitutes a breach of the duty, imposed by sub section (1), above, that duty shall be taken to require any modifications of the records to be made as soon as reasonably practicable after the completion of such works, which make the modification necessary; and where records kept under this section are

modified, the date of the modification and of the completion of the works making the modification necessary shall be incorporated in the records.

(5) The duties of a water undertaker under this section shall be enforceable under section 11.

28. Sewerage functions.— (1) Every sewerage undertaker shall:

- (a) provide, improve, rehabilitate and extend such a system of public sewers, whether inside its area or elsewhere, and so to cleanse and maintain such sewers as to ensure that such area is and continues to be effectually drained; and
- (b) make provision for the emptying of those sewers and for effectually dealing by means or sewage disposal works or otherwise with the content of those sewers.

(2) In performing its duty under subsection (1), the sewerage undertaker shall have regard to:

- (a) its existing and future obligations to allow discharge of effluent into its public sewers; and
- (b) the need to provide for the disposal of effluent which is so discharged.

29. Standards of performance.— (1) The Government may by regulations prescribe standards of performance in connection with the provision of sewerage services.

(2) Without prejudice to the generality of the power conferred by subsection (1), the regulations may:

- (a) include in a standard of performance a requirement for a sewerage undertaker in prescribed circumstances to inform persons of their rights and duties by virtue of any such regulations; and
- (b) provide for any dispute under the regulations to be referred to by either party to the Authority.

30. Supply of sewerage services for domestic purposes.— (1) Every sewerage undertaker shall provide a public sewer to be used for drainage of premises in a particular

locality in its area if the sewerage undertaker is required to provide the sewer by a notice served on the sewerage undertaker by one or more persons who are entitled under subsection (2) to require the provision of the sewer for that locality.

(2) The following persons shall be entitled to require the provision of a public sewer for any locality:

- (a) the owner of a premises in that locality;
- (b) a housing authority;
- (c) the local government; and
- (d) any other person as specified by rules.

(3) The sewerage undertaker shall not be in breach of his obligations under subsection (1) if the applicant does not provide an undertaking to pay, to the sewerage undertaker, costs reasonably incurred in providing the main over a prescribed period of time.

(4) Any dispute between a sewerage undertaker and any other person regarding costs to be paid shall be referred to the arbitration of a single arbitrator by agreement between the sewerage undertaker and that person and in default of such agreement the dispute shall be finally decided by the Authority.

31. Performance of sewerage functions by local authorities etc.— (1) A local authority may, in accordance with any arrangement which it has entered into for the purpose with any sewerage undertaker, carry out sewerage functions on that undertaker's behalf in relation to such area comprising the whole or any part of that authority's relevant area with parts of any adjacent relevant areas of other relevant authorities, as may be specified in the arrangements.

(2) Arrangements entered into for the purposes of this section may contain any such provision as may be agreed between the relevant authority and the sewerage undertaker but shall not affect the availability to any person, other than the relevant authority, of any remedy against the sewerage undertaker in respect of the carrying out of the sewerage undertaker's sewerage functions or of any failure to carry them out.

(3) Where arrangements entered into for the purposes of this section so provide, a relevant authority shall be entitled to

exercise on behalf of a sewerage undertaker any power which by or under any enactment is exercisable by the sewerage undertaker for the purposes of, or in connection with, the carrying out of the sewerage undertaker's sewerage functions.

32. Trade effluent.— (1) It shall be the duty of every sewerage undertaker to provide a sewer to be used for the drainage of trade effluent to premises in a particular locality in its area if the sewerage undertaker is required to provide the sewer by a notice served on the sewerage undertaker by one or more persons who are entitled under subsection (2) to require the provision of the sewer for that locality.

(2) The following persons shall be entitled to require the provision of a pipe for discharge of trade effluent:

- (a) The owner of an industrial premises in a locality duly approved by the local authority;
- (b) an industrial authority managing industrial estates;

(3) The sewerage undertaker shall not be in breach of his obligations under subsection (1) if:

- (a) the person does not provide an undertaking to pay, to the sewerage undertaker, costs reasonably incurred in providing the main over a prescribed period of time;
- (b) the trade effluent is of a nature that shall make it difficult for the sewerage undertaker to discharge its obligations to domestic consumers; or
- (c) the trade effluent cannot be safely carried in the pipes of the sewerage undertaker or needs to be carried separately for specialized treatment.

Any dispute between a sewerage undertaker and any other person regarding costs to be paid shall be referred to the arbitration of a single arbitrator by agreement between the sewerage undertaker and that person and in default of such agreement the dispute shall be finally decided by the Authority.

33. Power to disconnect connection for trade effluent.— (1) A sewerage undertaker may provide for disconnecting a pipe which carries trade effluent if:

- (a) it is reasonable for the disconnection to be made for the purposes of carrying out any necessary works; and
- (b) the occupier of the premises is liable to pay charges due to the sewerage undertaker in respect of services to those premises and has failed to do before the period of 15 days beginning with the day after he is served with notice requiring him to do so.

(2) Where a sewerage undertaker exercises its power by virtue of clause (a) of subsection (1) to make a disconnection for the purposes of the carrying out of any necessary works, it shall owe a duty to the consumer to secure:

- (a) that those works are carried out with reasonable dispatch; and
- (b) that any service is not interrupted for more than 7 days for the purpose of carrying out of those works.

34. Permission to dispose of waste water or trade effluent directly.— (1) Where:

- (a) it is not practicable, at reasonable cost, for a sewerage undertaker to provide sewerage pipes;
- (b) it is practicable and safe for the owner or occupier of industrial premises to drain waste water or trade effluent in pipes not owned or operated by the sewerage undertaker; and
- (c) the local authority in whose area those premises are situated permits the sewerage undertaker to allow discharge of waste water or trade effluent in pipes not owned or operated by the sewerage undertaker.

the sewerage undertaker may allow a person, by a sub-license, to discharge waste water or trade effluent in those pipes.

(2) A sub license issued under subsection (1) shall be granted in accordance with any conditions that the Commission may impose on such sub licenses specifically or generally.

35. Sewer maps.— (1) Subject to subsection (5), it shall be the duty of the Authority and every sewerage undertaker to keep records of the location and other relevant particulars of:

- (a) every public sewer or disposal main operated by the sewerage undertaker or other persons with the permission of the sewerage undertaker;
- (b) any other underground works other than a service pipe which are owned or operated by the sewerage undertaker

(2) For the purposes of this section, the relevant particulars of a drain sewer or disposal main, in addition to its location, shall include particulars as to:

- (a) whether it is a drain, sewer or disposal main and of the description of effluent for the conveyance of which it is or is to be used, and
- (b) whether it is operated by the sewerage undertaker or, if it is not, whether it is operated with the permission of the sewerage undertaker.

And the records kept by a sewerage undertaker under this section shall be kept separately in relation to the area of each local authority within whose area there is any drain, sewer, or disposal main of which that sewerage undertaker is required to keep records

- (3) It shall be the duty of every sewerage undertaker to:
- (a) provide to the local authorities, without any fee, the copies of the contents of records kept under this section, and with copies of any modifications of those records, as to ensure that every local authority to whose area any of the records relate are at all times informed of the contents of the record, for the time being, relating to their area; and
 - (b) ensure that the contents of all the records for the time being kept by the sewerage undertaker under this section are available, at all reasonable times, for inspection by the

public free of charge at any office of the sewerage undertaker.

(4) Any information which is required to be kept by this section shall be so provided or made available in the form of a map.

(5) For the purposes of determining whether any failure to make a modification of any records kept under this section constitutes a breach of the duty, imposed by sub section (1) above which make the modification necessary; and where records kept under this section are modified, the date of the modification and of the completion of the works making the modification necessary shall be incorporated in the records.

36. Powers of undertakers to charge.— (1) Subject to the provisions of this Act, the powers of every water undertaker and of every sewerage undertaker shall include the power to:

(a) fix charges for any services provided in the course of carrying out its functions and, in the case of a sewerage undertaker, charges to be paid in connection with the carrying out of its trade effluent functions; and

(b) demand and recover charges fixed under this section from any person to whom the water undertaker or sewerage undertaker, as the case may be, provides services or in relation to whom it carries out trade effluent functions.

(2) The powers conferred under subsection (1) shall be exercisable:

(c) by undertakers:

(i) in the case of supply of water after taking into consideration the cost of abstraction, improvement in quality of water and protection of water from contamination till it is supplied to premises; and

(ii) in the case of sewerage or waste water after taking into consideration the cost of carrying it, treating it and protecting soil and water from the waste water till it is treated; or

- (d) by or in accordance with agreements with persons to be charged.

37. Provisions relating to charging by volume.— (1)

Where the Authority so requires, the water undertakers and sewerage undertakers shall put into effect a scheme for the purpose of securing the installation of meters and of making other provision in relation to meters and the premises where they are installed.

(2) Government may, by regulations, make such provision as it considers appropriate with respect to the connection, disconnection, use, maintenance, authentication and testing of meters and with respect to any related matter.

(3) Without prejudice to the generality of subsection (2), the regulations may:

- (a) regulate the positioning, whether inside or outside of the building or other premises in relation to which the meter is to be used, of any meter or of any pipes or apparatus appearing to any water undertaker or sewerage undertaker to be required for the purpose of facilitating the use of any meter;
- (b) make any other provision which appears to the Government to be appropriate with respect to any such pipes or apparatus;
- (c) provide for a reading from a meter to be proved in such manner as may be prescribed and for a reading from a meter to be such evidence as may be prescribed of the volume of water supplied to, or of effluent discharged from, any premises;
- (d) fix the method of determining the amount of the charges to be paid where it appears that a meter has given, or may have given, an incorrect reading;
- (e) require a person who is not a water undertaker or sewerage undertaker to pay the expenses incurred by a water undertaker or sewerage undertaker in doing anything under the regulations or to pay contributions towards those expenses;

- (f) provide for the payment of compensation in respect of anything done by a water undertaker or sewerage undertaker under the regulations; and
- (g) require disputes arising under the regulations to be referred to arbitration.

38. Power of the Authority to modify charges.— The Authority may modify, through an order, charges where it finds that an undertaker:

- (a) has not spread costs over a reasonable period of time;
- (b) has charged consumers unfairly; and
- (c) has not acted in support of the consumer objective.

39. Offence of tampering with meters etc.— (1) If any person:

- (a) so interferes with a meter used by any water undertaker or sewerage undertaker in determining the amount of any charges fixed in relation to any premises to prevent the meter from showing or from accurately showing the volume of water supplied to or of effluent discharged from those premises; or
 - (b) carries out any works which he knows are likely to affect the operation of such a meter;
- he shall be guilty of an offence and liable, on conviction, to a fine not exceeding rupees fifty thousand.

(2) A person shall not be guilty of an offence under subsection (1) in respect of anything done by him with the consent of the undertaker who uses the meter.

40. Abstraction licenses.— (1) The license to abstract water may be one of the following three types:

- (a) a license to abstract water from one source of supply;

- (b) a license to abstract water from one source of supply for the purpose of transferring to another source of supply;
 - (c) A license to abstract water from one source of supply for the purposes of transferring to the same source of supply at another point.
- (2) A license to abstract water from one source of supply shall be of one or more of the following seven types:
- (a) a license to abstract water for supply to consumers by a water undertaker;
 - (b) a license to abstract water for agricultural purposes;
 - (c) a license to abstract water for domestic purposes;
 - (d) a license to abstract water for industrial purposes;
 - (f) a license to abstract water for ecological purposes; and
 - (g) a license to abstract water for purposes not listed above.
- (3) No person shall abstract water from controlled waters without a license.
- (4) Abstraction licenses shall be granted by the authorities listed in First Schedule of this Act.

41. Terms and conditions of licenses.— (1) Every abstraction and disposal license under this Act shall be in the prescribed form and shall be valid for a fixed duration of time.

(2) Every license shall be subject to such terms and conditions as the Commission may prescribe.

(3) Every license shall provide for the point at which abstraction and disposal shall take place.

(4) Notwithstanding anything contained above a disposal license shall include the following conditions that:

- (a) the disposed of water shall comply with applicable environmental standards; and
- (b) samples of the disposed of water shall be collected and tested periodically.

(5) Any person who knowingly contravenes the terms and conditions of a license shall be guilty of an offence

punishable with fine which may extend to rupees two hundred thousand.

42. Environmental and recreational duties.— (1) It shall be the duty of the Government and every authority established under this Act in formulating or considering any proposals:

- (a) to further the conservation and enhancement of natural beauty and the conservation of flora and fauna and geological or physio-geographical features or special interest;
- (b) to have regard to the desirability of protecting and conserving buildings, sites and objects of archeological, architectural or historic interest;
- (c) to take into account any effect which the proposal would have on the beauty or amenity of any rural or urban area or on any such flora, fauna, features, buildings, sites or objects; and
- (d) to have regard to the desirability of preserving and maintaining for the public freedom of access and visiting any place of natural beauty or building or site or object of archeological, architectural or historic interest.

(2) Without prejudice to any other duty imposed by this Act, it shall be the duty of every authority to promote:

- (a) the conservation and enhancement of natural beauty; and
- (b) the conservation of flora or fauna which are dependent on streams and large bodies of water.

43. Water protection zones.— (1) The Government may declare a particular area as water protection zone to prevent or control the entry of any poisonous, noxious or polluting matter into the controlled waters, to prohibit or restrict the carrying on in a particular area of activities which it may consider likely to result in the pollution of any such waters.

(2) The Government may by regulations determine the circumstances in which the carrying on of any activities is

prohibited or restricted and to determine the activities to which any such prohibition or restriction applies.

44. Power of investigation.— (1) The Authority may appoint one or more persons as technical assessors for the purpose of conducting an investigation whether any duty or other requirement imposed on an undertaker by or under this Act is being, has been or is likely to be contravened.

(2) It shall be the duty of an undertaker to provide such assistance as may be required by a person appointed under sub section (1) for the purposes of an investigation mentioned above.

(3) Any person appointed under subsection (1) may:

- (a) enter any premises for the purpose of carrying out any such investigation as is mentioned in sub section (1);
- (b) carry out such inspections, measurements and tests on premises and take away such samples of water or of any land and such fittings and other articles as may be required; and
- (c) at any reasonable time require any water undertaker to supply him with copies of, or extracts from the contents of any record kept for the purpose of complying with any duty or other requirement imposed on that undertaker.

(4) Any undertaker which fails to comply with the duty imposed under subsection (2) above shall be guilty of an offence punishable with fine which may extend to rupees two hundred thousand.

45. Rules.— The Government may by notification in the Gazette make rules for carrying out the purposes of this Act.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Effective management of water resources in the Islamabad is essential in the present scenario on urgent basis. In order to implement the aforementioned proposal, a comprehensive legislation is required which may encompass the matters such as water governance, its allocation, sustainable use, conservation, recharge, management and pricing of water resources, abstraction from and disposal of water from the controlled waters.

2. Hence this Bill is designed to achieve the above said objectives.

Sd/-

MS. NAFEESA INAYATULLAH KHAN KHATTAK

MS. ASMA QADEER

MR. ALI NAWAZ AWAN

RAJA KHURRAM SHAHZAD NAWAZ

MS. FARUKH KHAN

[قومی اسمبلی میں پیش کردہ سو فیصد بل]

اسلام آباد میں آبی وسائل کے جامع انتظام و انضباط کا

بل

ضروری ہے کہ اسلام آباد میں آبی وسائل کا ایک جامع قانون سازی کے ذریعے موثر انتظام عمل میں لایا جائے۔ اس قانون سازی میں آبی نظم و نسق، اس کی تخصیص، دیرپا استعمال، تحفظ، سطح برقرار رکھنے، انتظام و انصرام اور قیمت کا تعین کرنے؛ منضبط شدہ پانیوں سے پانی کے اخراج اور تصرف اور اس کے ضمنی معاملات کا احاطہ کیا جانا چاہیے۔

بذریعہ ہذا حسب ذیل قانون وضع کیا جاتا ہے:

۱۔ مختصر عنوان، وسعت اور آغاز نافذ۔ (۱) ایکٹ ہذا اسلام آباد آبی تحفظ ایکٹ، ۲۰۲۱ء کے نام سے موسوم ہوگا۔

(۲) یہ دارالحکومت اسلام آباد کی جملہ علاقائی حدود پر وسعت پذیر ہوگا۔

(۳) یہ فی الفور نافذ العمل ہوگا۔

۲۔ تعریفات۔ ایکٹ ہذا میں:

(الف) ”ایکٹ“ سے مراد اسلام آباد آبی تحفظ ایکٹ، ۲۰۲۱ء ہے؛

(ب) ”ادارہ“ سے مراد ایکٹ ہذا کی دفعہ ۳ کے تحت قائم کردہ اسلام آباد انضباطی ادارہ برائے آبی خدمات ہے؛

(ج) ”حکومت“ سے مراد وفاقی حکومت ہے؛

(د) ”مقامی ادارہ“ سے مراد:

(اول) اراضی کے استعمال کے انضباط یا انتظام کے لئے فی الوقت نافذ العمل قانون کے ذریعے قائم کردہ ادارہ برائے

انضباط اراضی ہے؛ یا

(دوم) اراضی پر مبنی خدمات فراہم کرنے کے لئے حکومت کی جانب سے قائم کردہ کمپنی ہے؛

(۵) ”میٹر“ سے مراد کسی بھی احاطہ سے فراہم کئے جانے والے یا جاری ہونے والے پانی کی مقدار کی پیمائش یا ظاہر کرنے

کے لئے کوئی منظور شدہ آلہ ہے؛

(۶) ”شخص“ میں کوئی ذمہ دار شخص، ادارہ یا کمپنی شامل ہے؛

(ز) ”مقرر کردہ“ سے مراد ایکٹ ہذا کے تحت وضع کردہ یا تشکیل کردہ قواعد یا ضوابط کے ذریعے مقرر کردہ ہے؛

(ح) ”قواعد“ سے مراد ایکٹ ہذا کے تحت وضع کردہ قواعد ہیں؛ اور

(ط) ”ضوابط“ سے مراد ایکٹ ہذا کے تحت وضع کردہ ضوابط ہیں۔

۳۔ اسلام آباد انضباطی ادارہ برائے آبی خدمات۔ (۱) ایکٹ ہذا یا فی الوقت نافذ العمل کسی دیگر قانون کے تحت مفوضہ

کارہائے منصبی انجام دینے کی اغراض سے کے لئے اسلام آباد انضباطی ادارہ برائے آبی خدمات کے نام سے موسوم ایک کارپوریٹ ادارہ ہوگا۔

(۲) یہ ادارہ حسب ذیل اراکین پر مشتمل ہوگا:

(الف) وزیر برائے داخلہ

چیئر پرسن بلحاظ عہدہ

(ب) وفاقی حکومت کی جانب سے تقرر کردہ ڈپٹی چیئر پرسن جو پانی کے تحفظ کے شعبہ میں تجربہ رکن

یا مہارت اور ایسی دیگر اہلیت جو بھی ہو کا حامل ہو؛

(ز) تحفظ آب کے ڈھانچہ جات کی تعمیر کے لئے لوگوں بالخصوص اسکول کے بچوں اور دیہات کے افراد کی تحفظ آب میں کردار ادا کرنے کی حوصلہ افزائی کرنا؛

(ح) تمام سرکاری عمارتوں، پبلک پارکوں اور مقامات، گھروں اور اداروں میں بارش کا پانی ذخیرہ کرنے کو لازمی بنانے اور بارش کے پانی کو ذخیرہ کرنے کے بارے میں لوگوں میں آگاہی پیدا کرنے کے لئے حکومت کو مشورہ دینا؛

(ط) آبی تحفظ کی اہمیت کی ریڈیو، ویڈیوز، پمفلٹس، کتابچوں، بل بورڈ اور پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے بڑے پیمانے پر تشہیر کیا جانا؛

(ی) شجرکاری کی بطور مہم حوصلہ افزائی کرنا؛

(۳) اتھارٹی ذیلی دفعہ (۱) میں بیان کردہ اختیارات اور فرائض کو احسن طریقے سے استعمال اور ادا کرے گی جو کہ مقرر کئے جائیں گے:

(الف) صارف اغراض کے فروغ کے لئے؛

(ب) اس امر کو یقینی بنانا کہ پانی کے ذمے دار فرد اور یہ کہ نکاسی آب کے ذمہ دار فرد کے کارہائے منصبی مناسب طور پر انجام دیئے جائیں گے؛

(ج) محفوظ بنانا کہ ادارے یا کمپنیاں جو کہ تحفظ آب کے ذمہ دار فرد یا نکاسی آب کے ذمہ دار فرد کی تقرری کرتے ہیں ایکٹ ہذا کے تحت پانی اور نکاسی آب کی سروسز کی مناسب طور پر انجام دہی کو فنانس کرنے کے قابل ہوں؛ اور

(د) اس بات کو یقینی بنانا کہ فی الوقت نافذ العمل دیگر کسی قانون کے تحت مذکورہ اغراض کے لئے عائد کردہ دیگر کسی فرائض منصبی کے ساتھ ساتھ پانی نکالنے کے لائسنس یا پانی کی سپردگی کے لائسنس کے تحت مجاز کردہ سرگرمیوں کو مناسب طور پر ادا کیا جائے۔

(۴) ذیلی دفعہ (۲) کی شق (الف) کے غرض کے لئے، منجملہ مفادات کے ضمن میں اتھارٹی کو حاصل ہوں گے:

(الف) افراد جو کہ معذور یا شدید بیمار ہوں؛

(ب) بوڑھے افراد؛

(ج) کم آمدن افراد؛

(د) دیہی علاقوں میں بسنے والے افراد؛

(۵) ایسی کمپنیوں کے صارفین جو کہ ذمہ دار فرد کی تقرری کریں، جن کے احاطے حدود لائسنس یافتہ واٹر سپلائی کی جانب سے ترسیل کیے جانے کے اہل قرار نہیں دیئے گئے ہوں۔

(۵) ذیلی دفعہ (۲) سے مشروط، اتھارٹی مناسب طریقے سے ذیلی دفعہ (۱) میں بیان کردہ اختیارات اور فرائض کو استعمال اور سرانجام دے گی جو کہ مجوز کئے جائیں گے۔

(الف) نگران ذمہ دار کے طور پر تقرری کرنے والے ادارے یا کمپنیاں معیشت اور استعداد کار کو فروغ دیئے جانے کے لئے؛

(ب) اس امر کو یقینی بنائے جانے کے لئے کہ کوئی ناجائز ترجیحی ظاہر نہ کی جائے، اور ایسی کمپنیوں کی جانب سے پانی اور نکاسی آب چارجز مقرر کرنے میں کوئی ناجائز امتیاز روانہ رکھا جائے؛

(ج) اس کو یقینی بنائے جانے کے لئے کہ ہر فرد جو کہ صارف ہو یا متوقع صارف ہو کے مفادات کو ذمہ دار کی جانب سے قیمت مقرر کرنے اور موصولی کے ضمن میں تحفظ دیا جائے جو کہ ذمہ دار ہو؛

(i) پانی کے ذمہ دار فرد یا نکاسی آب کا ذمہ دار فرد کارہائے منہی کی انجام دہی کے دوران فراہم کی گئی کسی سروسز کے ضمن میں چارجز؛ اور

(ii) کسی دیگر مد میں بیان کردہ رقوم جس کے لئے ذمہ دار فرد کو مجاز کیا جائے یا کسی دیگر قانون کے تحت ایسے فرد کو ادا کرنا ضروری ہو؛ اور

(د) اس امر کو یقینی بنایا جائے کہ دیگر شرائط جس پر کوئی سروسز فراہم کی جاتی ہیں اور ان سروسز کے معیار کے حوالے سے ہر ایسے فرد کے مفادات کو تحفظ دیا جائے۔

۵۔ اتھارٹی کا ڈائریکٹرز۔ (۱) اتھارٹی کا ایک ڈائریکٹر جنرل ہو گا جن کی حکومت کی جانب سے ان شرائط پر تقرری کی جائے گی جیسا کہ مجوزہ کئے جائیں اور اتھارٹی کے امور کی باضابطہ انجام دہی کا ذمہ دار ہو گا۔

(۲) ڈائریکٹر جنرل کو ان کے امور کی انجام دہی میں ایسی تعداد میں افسران اور عملے معاونت فراہم کرے گا جیسا کہ حکومت کی جانب سے متعین کی گئی ہو۔

۶۔ پانی کے ذمہ دار افراد اور نکاسی آب کے ذمہ دار افراد۔ (۱) حکومت کسی کمپنی، مقامی حکومت یا آئینی اتھارٹی کو کسی علاقے کے لئے پانی کے ذمہ دار یا نکاسی آب کے ذمہ دار بنائے جانے کے لئے تقرری کر سکتی ہے۔

(۲) کسی کمپنی، مقامی حکومت یا آئینی اتھارٹی کی پانی کے ذمہ دار یا نکاسی آب کے ذمہ دار بنائے جانے کے لئے تقرری تحریر میں کسی معاہدے کے ذریعے کی جائے گی جو کہ تقرری بشمول اس کی شرائط و قیود اور علاقہ جس کے لئے بنائی گئی ہو کی وضاحت پر مبنی ہو۔ مگر شرط یہ ہے کہ کوئی بھی تقرری کمپنی، مقامی حکومت یا آئینی اتھارٹی ایسے علاقے جہاں قانونی طور پر فعال ہو، کی دسترس سے باہر نہیں کی جائے گی۔

۷۔ احکامات کا نفاذ۔ (۱) کوئی کمپنی جو پانی کے ذمہ دار فرد یا نکاسی آب کے ذمہ دار فرد کے طور پر تقرری کرے، کی صورت میں، اتھارٹی اس پر مطمئن ہو کہ:

(الف) ایسی کمپنی خلاف ورزی کر رہی ہو؛

(i) کمپنی تقرری کی کسی شرط (شرائط) جس میں یہ نافذ کرنے والی اتھارٹی ہو؛ اور یا

(ii) کوئی آئینی تقاضا جو کہ قابل نفاذ ہو، اور اس تعلق سے وہ نفاذ کرنے والی اتھارٹی ہو؛ اور

(ب) ایسی کمپنی جو ان شرائط یا تقاضے کی خلاف ورزی کرے اور اس کا خدشہ ہو کہ یہ کمپنی دوبارہ خلاف ورزی کر سکتی ہے،

اتھارٹی کسی عبوری حکم نامے کے ذریعے ایسی شرط وضع کر سکتی ہے جو کہ ان شرائط یا تقاضوں کی پیروی کی غرض کے لئے درکار ہو سکتی ہے۔

(۲) جہاں ذیلی دفعہ (۱) کے تحت کوئی حکم جاری کیا گیا ہو، اور جس کی عدم پیروی سے پانی یا نکاسی آب کی سروسز کی فراہمی بشمول عوام کی صحت اور صفائی پر اثر انداز ہونے کے سنگین اثرات ہو سکتے ہیں، اتھارٹی ایسے حکم نامے کے بارے میں حکومت کو معلومات فراہم کرے گی اور اس کی عدم تعمیل کے نتائج کے بارے میں مطلع کرے گی۔

(۳) حتمی حکم نامے یا عبوری حکم نامے کو حتمی کرنے سے قبل، اتھارٹی ایک نوٹس دے گی:

(الف) جس میں بیان کیا جائے گا کہ حتمی حکم نامے یا عبوری حکم نامے کو حتمی کرنے اور حکم کو مؤثر بنانے کی اغراض

کیا ہیں؛ اور

(ب) آغازر ابتداء کرنا و وضع کرنا:

(i) اس حکم نامے کی پیروی کی اغراض کے لئے شرائط یا تقاضے؛

(ii) ارادتا یا غیر ارادی طور پر کئے گئے اعمال جو اس کی رائے میں ایسی شرائط یا مقتضیات کی خلاف

ورزی پر مشتمل ہیں یا مشتمل ہوں گی؛ اور

(iii) دوسرے حقائق جو اس کی رائے میں اس طرح کے حکم کی منظوری کا جواز پیش کرتے ہیں۔

(۴) حتمی یا عبوری حکم:

(الف) کی رو سے، کمپنی، جس سے اس کا تعلق ہے، حکم میں بیان کردہ ایسے کام کرنے یا نہ کرنے کی پابند ہوگی؛

(ب) ایسے وقت پر نافذ ہوگا، جو کہ ابتدائی عملی وقت ہو، جیسا کہ حکم کے ذریعے یا اس کے تحت طے کیا جائے؛ اور

(ج) کو حکومت یا اتھارٹی منسوخ یا اس میں تبدیل کر سکتی ہے۔

(۵) کسی بھی حتمی یا عبوری حکم کی تعمیل کرنے کی ذمہ داری، اتھارٹی اور کسی بھی شخص جو اس حکم کی خلاف ورزی سے متاثر

ہو سکتا ہے، پر واجب ہوگی۔

۸۔ نگران اداروں کا رجسٹر۔ اتھارٹی حسب ذیل معلومات کے بارے میں، مقرر کردہ طریقہ کار کے مطابق، کاغذ اور

الیکٹرانک صورت میں ایک رجسٹر برقرار رکھے گی:

(الف) اس ایکٹ کے تحت کی گئی ہر تقرری؛

(ب) ایسی کسی تقرری کی ہر برطرفی؛

(ج) اس علاقہ کی ہر تبدیلی جس کے لئے کوئی بھی کمپنی ایسی کوئی تقرری کرتی ہے؛

(د) کسی بھی تقرری کی شرائط؛

(ه) احکامات کا نفاذ؛

(و) اتھارٹی یا حکومت کے سپرد کی گئی اور ان کی جانب سے قبول کی گئی ہر ذمہ داری؛ اور

(ز) اتھارٹی کی جانب سے پانی کے نگران اداروں اور سیوریج کے نگران اداروں کو دیئے گئے تجدیدی

لائسنسوں اور ٹھکانے لگانے کے لائسنسوں کی تفصیل۔

۹۔ خدمات تفویض کرنے کا اختیار۔ (۱) ذیلی دفعہ (۲) کے تحت، نگران اتھارٹی کے ساتھ کئے گئے تحریری معاہدے کے ذریعے، پانی اور ریسیورٹج خدمات، کسی کمپنی، جو پانی اور ریسیورٹج خدمات کی فراہمی کے مقصد کے لئے رجسٹرڈ ہو گیا ایک مقامی اتھارٹی کو عارضی طور پر یا ایک مقررہ مدت کے لئے، تفویض کر سکے گا۔

(۲) کوئی نگران ادارہ، جہاں پر وہ خود مقامی حکومت نہ ہو، ایک کام کرنے سے پہلے اتھارٹی اور مقامی حکومت کی پیشگی اجازت حاصل کرے گا۔

(۳) تفویض کنندہ، نگران ادارہ کی ایماء پر کام کرے گا، اور نگران ادارہ اس ایکٹ کی دفعات کے مطابق خدمات کی باقاعدہ انجام دہی کے ضمن میں مسلسل ذمہ دار رہے گا۔

(۴) بلا لحاظ اس امر کے کہ تحریری معاہدے میں کچھ مذکور ہو، اتھارٹی، نگران ادارہ براہ راست خدمات انجام دینے کا تقاضا کر سکتی ہے، جہاں وہ یہ طے کرتی ہے کہ تفویض کنندہ کے ناکام ہونے کا امکان ہے یا اس ایکٹ کی دفعات کے مطابق کام کرنے میں ناکام رہا ہے۔

۱۰۔ نگران ادارہ کے فرائض۔ (۱) ہر نگران ادارہ اپنے علاقے میں پانی کی فراہمی کا موثر اور باکفایت نظام تیار کر کے برقرار رکھے گا اور اس امر کو یقینی بنائے گا کہ تمام ایسے انتظامات حسب ذیل کے ضمن میں کئے گئے ہیں:

(الف) اس علاقے میں موجود احاطوں، مکانات اور عمارتوں کو پانی کی فراہمی اور ایسے افراد جو پانی کا مطالبہ کرتے ہیں کے لئے اس کی فراہمی کو دستیاب بنانا؛ اور

(ب) پانی کی مرکزی پائپ لائنوں اور دیگر پائپوں کو برقرار رکھنا، بہتر بنانا اور توسیع دینا۔

(۲) حکومت ضوابط کے ذریعے، پانی کی فراہمی کے سلسلے میں کارکردگی کے ایسے معیارات تجویز کر سکتی ہے جو اس کی رائے میں حاصل کئے جانے چاہئیں، اور ایسے ضوابط یہ صراحت کر سکتے ہیں کہ اگر پانی کا نگران ادارہ مقررہ معیار پر پورا نہ اترے تو وہ اس ناکامی سے متاثرہ کسی بھی شخص کو تجویز کردہ ادائیگی کرے گا۔

۱۱۔ گھریلو مقاصد کے لئے پانی کی فراہمی کا فرض۔ (۱) ایک یا ایک سے زیادہ افراد، جو ذیلی دفعہ (۲) کے تحت ایسی مرکزی پائپ لائن سے پانی حاصل کرنے کے حقدار ہوں، اگر پانی کے نگران ادارہ کو نوٹس دیں تو پانی کا (ہر) نگران ادارہ اپنے علاقے کے خاص مقام کے احاطوں، مکانات و عمارتوں کو پانی کی فراہمی کے لئے استعمال ہونے والی مرکزی پائپ لائن فراہم کرے گا۔

(۲) ذیلی دفعہ (۱) کے تحت مندرجہ ذیل افراد پانی کی فراہمی حاصل کرنے کے حقدار ہوں گے:

(الف) مقامی اتھارٹی سے منظور شدہ احاطے، مکان یا عمارت کا مالک؛

(ب) مقامی اتھارٹی سے باقاعدہ منظور شدہ ہاؤسنگ سوسائٹی؛

(ج) متعلقہ مقامی حکومت؛ یا

(د) ضوابط کے مطابق متعین کردہ کوئی اور شخص؛ یا

(۳) اگر درخواست گزار پانی کے نگران ادارے کو ایک مقررہ مدت کے دوران مرکزی پائپ لائن فراہم کرنے پر صرف

کردہ مناسب اخراجات ایک مقررہ مدت کے دوران ادا کرنے کی ضمانت فراہم نہیں کرتا ہے تو پانی کا نگران ادارہ ذیلی دفعہ (۱) کے تحت اپنی ذمہ داریوں کی خلاف ورزی نہیں کرے گا۔

(۴) پانی کے نگران ادارہ اور کسی شخص کے درمیان قابل ادائیگی اخراجات کے بارے میں تنازعہ کی صورت میں، پانی کا نگران ادارہ اور اس شخص کے درمیان معاہدے کے ذریعے، تنازعہ کو کسی ایک ثالث کی ثالثی کے لئے بھیجا جائے گا اور ایسے معاہدے پر عملدرآمد میں ناکامی کی صورت میں اتھارٹی حتمی فیصلہ کرے گی۔

۱۲۔ غیر گھریلو مقاصد کے لئے پانی کی فراہمی۔ (۱) ایک یا ایک سے زیادہ افراد، جو ذیلی دفعہ (۲) کے تحت مرکزی پائپ لائن سے پانی حاصل کرنے کے حقدار ہوں۔ اگر پانی کے نگران ادارہ کو نوٹس دیں تو پانی کا (ہر) نگران ادارہ ایک خاص مقام پر باقاعدہ منظور شدہ صنعتی احاطوں کو پانی کی فراہمی کے لئے استعمال ہونے والی مرکزی پائپ لائن فراہم کرے گا۔

(۲) ذیلی دفعہ (۱) کے تحت مندرجہ ذیل افراد پانی کی فراہمی حاصل کرنے کے حقدار ہوں گے:

(الف) مقامی اتھارٹی سے منظور شدہ صنعتی احاطے کا مالک؛

(ب) حکومت کی قائم کردہ صنعتی اسٹیٹ؛ اور

(ج) مقامی حکومت۔

(۳) پانی کا نگران اس دفعہ کی بنیاد پر صنعتی احاطوں کو نئی سپلائی فراہم کرنے کا ذمہ دار نہیں ہوگا اگر:

(الف) اگر پانی کی سپلائی کے ضمن میں کام کرنے پر اس کو بلا جواز اخراجات صرف کرنے پڑیں؛

(ب) یہ پانی کے نگران کی گھریلو یا دیگر مقاصد کے لئے پانی کی فراہمی کی موجودہ یا ممکنہ مستقبل کی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کی صلاحیت کو خطرے میں ڈالے؛

(ج) اگر ان احاطوں کو پانی کی سپلائی یا ان احاطوں میں پانی کے استعمال کی بابت استعمال کئے جا رہے پانی کے متعلقہ ساز و سامان (فٹنگز) یا جو ساز و سامان (فٹنگز) استعمال کیا جائے گا کے ضمن میں خلاف ورزی ہو؛ اور

(د) اگر صنعتی احاطے کے گندے پانی یا تجارتی فضلے کو ٹھکانے کے انتظامات ایکٹ ہذا کی تصریحات یا اس کے تحت بنائے گئے ضوابط کے مطابق نہیں ہیں۔

(۴) پانی کے معاملات کا نگران ذیلی دفعہ (۱) کے تحت اپنی ذمہ داریوں کی خلاف ورزی نہیں کرے گا اگر درخواست دہندہ

پانی کے معاملات کے نگران کو پانی کی رقم ادا کرنے کا معاہدہ فراہم نہیں کرتا، مقررہ مدت کے دوران مین (main) فراہم کرنے میں مناسب اخراجات ادا کرتا ہے۔

(۵) پانی کے معاملات کے نگران اور کسی دوسرے شخص کے مابین ادائیگی کے اخراجات بارے میں کوئی تنازعہ ہو تو پانی کے

معاملات کے نگران اور اس شخص کے مابین معاہدے کے تحت کسی ایک ثالث کی ثالثی کے سپرد کیا جائے گا، اور اتھارٹی کی جانب سے اسے معاہدے کے مطابق حل کیا جائے گا۔

۱۳۔ دیگر عوامی مقاصد کے لئے پانی کی فراہمی کی ذمہ داری۔ (۱) پانی کے معاملات کا ادارہ، سیوریج کے معاملات کے

ادارے، روڈ اتھارٹی یا مقامی اتھارٹی کی درخواست پر مناسب گنجائش میں گٹروں اور نالوں کی صفائی، شاہراہوں کی صفائی، کسی بھی عوامی مقصد کے لئے پمپ، حمام یا گھر دھونے کے لئے، پارکوں اور سبز علاقوں کو سرسبز رکھنے کے لئے اور ایسے دیگر عوامی مقاصد کے لئے جو ضروری ہوں گے لئے پانی کی فراہمی کے لئے پائپ دستیاب کرے گا۔

(۲) دفعہ ہذا کے تحت پانی کے معاملات کا ادارہ ایسی شرائط پر پانی فراہم کرے گا جو مناسب ہوں۔

۱۴۔ پانی کی فراہمی میں تسلسل اور پریشر۔ (۱) پانی کے معاملات کے ادارے کا یہ فرض ہوگا کہ وہ پانی کے تمام ذرائع اور پائپوں میں پانی چھوڑے جو گھریلو مقاصد کے لئے پانی کی فراہمی کی بابت استعمال ہوتے ہیں اس فراہمی کو تسلسل اور پریشر سے کرے تاکہ پانی اتنی اونچائی تک پہنچ سکے جو اتھارٹی کی ضرورت ہو۔

(۲) ذیلی دفعہ (۱) میں کوئی بھی چیز پانی کی فراہمی کے تسلسل یا دباؤ (پریشر) کو برقرار رکھنے کے لئے کسی بھی مدت کے دوران پانی فراہمی کے لئے پانی کے معاملات کے نگران پر کوئی ڈیوٹی عائد نہیں کرے گی جس کے دوران کوئی ضروری کام سرانجام دینے کے لئے یہ مناسب ہو کہ پانی کی فراہمی منقطع یا کم کی جائے۔

(۳) اس دفعہ کے تحت پانی کے معاملات کے نگران کی ذمہ داریاں اس ایکٹ کے تحت قابل عمل ہوں گی۔

(۴) اس دفعہ کے تحت پانی کے معاملات کا نگران ادارہ اگر اپنے فرائض کی خلاف ورزی کرتا ہے تو وہ جرم کا مرتکب ہوگا، اور جرم ثابت ہونے پر جرمانے کا مستوجب ہوگا جو پانچ لاکھ روپے تک ہو سکتا ہے۔

(۵) ذیلی دفعہ (۴) کے تحت کسی جرم پر پانی کے معاملات کے کسی بھی نگران کے خلاف کسی بھی کارروائی میں، یہ پانی کے معاملات کے نگران کا دفاع ہوگا کہ اس نے یہ ظاہر کیا کہ جرم کے ارتکاب سے بچنے کے لئے اس نے تمام معقول اقدامات کئے اور پوری تندہی سے کام کیا۔

۱۵۔ پانی کی فراہمی کا معیار اور کافی مقدار۔ (۱) پانی کے معاملات کے نگران کا یہ فرض ہوگا کہ۔

(الف) گھریلو مقاصد کے لئے کسی بھی احاطے میں پانی کی فراہمی کے دوران صرف صاف پانی فراہم کیا جائے؛ نیز

(ب) جہاں تک معقول حد تک قابل عمل ہو، اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ ہر ذرائع یا وسائل کے مجموعہ سے جہاں

سے پانی کے معاملات کا نگران گھریلو مقاصد کے لئے احاطے میں پانی فراہم کرتا ہے تو عمومی طور پر اس پانی

کے معیار میں کوئی خرابی نہ ہو، جو وہ ماخذ یا وسائل کے مجموعہ سے حاصل کرتا ہے۔

(۲) اس دفعہ کے مقاصد کے لئے، پانی کے معاملات کے نگران کی جانب سے کسی بھی احاطے کو پانی کی فراہمی کے دوران

پانی کو غیر صحت بخش نہیں سمجھا جائے گا جہاں صرف پانی کے نگران ادارے کی جانب سے بچھائے گئے اور برقرار رکھے گئے پانی کے پائپوں کو چھوڑنے کے بعد صحت بخش نہ رہا ہو۔

(۳) اس دفعہ کے تحت پانی کے نگران ادارے کی ذمہ داریاں اس ایکٹ کی متعلقہ دفعہ کے تحت قابل عمل ہوں گی۔

(۴) اس دفعہ کے تحت، پانی کے معاملات کا نگران ادارہ اگر اپنے فرائض کی خلاف ورزی کرتا ہے تو وہ جرم کا مرتکب ہوگا،

اور جرم ثابت ہونے پر جرمانے کا مستوجب ہوگا، جو پانچ لاکھ روپے تک ہو سکتا ہے۔

۱۶۔ پانی کا معیار۔ (۱) حکومت قواعد و ضوابط کے تحت، پانی کے نگران ادارے کو ایسے تمام اقدامات کرنے کا تقاضا کر

سکتی جو ایکٹ کی دفعہ ۱۵ کی تعمیل کو یقینی بنانے کے لئے تجویز کئے گئے ہوں۔ جو ایکٹ کی دفعہ ۱۵ کی تعمیل کو یقینی بنانے کے لئے تجویز کئے گئے ہوں۔

(۲) ذیلی دفعہ (۱) کے تحت تفویض کردہ اختیارات کی عمومیت میں بغیر کسی تعصب کے، حکومت پانی کے نگران ادارے

پر یہ ذمہ داری عائد کر سکتی ہے کہ:

(الف) نگرانی اور ریکارڈنگ کے تجویز کردہ تمام اقدامات کریں کہ آیا وہ پانی جو پانی کا نگران ادارہ گھریلو استعمال کے لئے احاطے میں فراہم کرتا ہے فراہمی کے وقت صحت مندانہ ہے۔

(ب) ایسے تمام اقدامات کرنا جو کسی بھی ذریعہ یا ذرائع کے مجموعہ سے حاصل ہونے والے پانی کی نگرانی یا ریکارڈنگ کے تجویز کئے جاسکتے ہیں اور پانی کا نگران ادارہ جو پانی استعمال کرتا ہے یا گھریلو مقاصد کے لئے پانی کی فراہمی کے مقاصد کے لئے تجویز کئے جاسکتے ہیں۔

(ج) اس بات کو یقینی بنانا کہ وہ ذریعہ جس سے پانی کا نگران ادارہ پانی استعمال کر رہا ہے یا گھریلو مقاصد کے لئے پانی کی فراہمی کی تجویز دے رہا ہے، اس وقت تک استعمال نہیں کیا جائے گا جب تک کہ پانی کے معیار کو قائم رکھنے کے لئے مقررہ شرائط جو کہ پانی کے معیار کو قائم رکھ رہی ہوں جس سے پانی کی فراہمی ہو، کی تعمیل کی گئی ہو۔

(د) ان علاقوں کا ریکارڈ رکھنا کہ گھریلو مقاصد کے تمام احاطوں میں پانی کی فراہمی عام طور پر ایک ہی ذریعہ یا ذرائع کے مجموعہ سے فراہم کئے جاتے ہیں؛ اور

(ه) پانی کے نمونوں کے تجزیہ کے حوالے سے یا اندرونی رپورٹنگ یا تنظیمی انتظامات کے حوالے سے مقرر کردہ شرائط کی تعمیل کرنا۔

۱۹۔ سروس پائپوں اور فراہمی کی منقطع کے اختیارات۔ (۱) اس دفعہ کی تصریحات کے تحت، پانی کے معاملات کا ادارہ سروس پائپ لائن منقطع کر سکتا ہے جو کسی بھی احاطے کو پانی کی فراہمی کے لئے، پانی کی کسی بھی مین لائن سے منسلک ہے یا دوسری صورت میں کسی بھی احاطے کی پانی کی فراہمی منقطع کر سکتا ہے اگر:

(الف) کسی بھی ضروری کاموں کی انجام دہی کے مقصد کی تکمیل کے لئے انقطاع یا پانی کی فراہمی روکنا مناسب ہو؛
 (ب) احاطے کا مکین ایسے احاطے تک پانی کی فراہمی کے ضمن میں پانی کے منتظم کو واجبات کی ادائیگی کا مستوجب ہو اور وہ ایسے واجبات کی ادائیگی کا متقاضی نوٹس بھیجنے کے پندرہ دن کی مدت کے اندر واجبات ادا کرنے سے قاصر رہا ہو۔

(۲) جہاں شق (الف) کی ذیلی دفعہ (۱) کی رو سے پانی کا منتظم اپنے اختیارات کا استعمال کرے، اور کسی بھی ضروری کاموں کی انجام دہی کے مقصد کی تکمیل کے لئے انقطاع کی تعمیل کرے، تو یہ احاطے کے مکین کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ یقینی بنائے:-

(الف) کہ ایسے ضروری کام معقول تریل کے ساتھ انجام دیئے جائیں؛ نیز
 (ب) کہ فقط، پائپوں کے ذریعے یا ان کے بغیر، گھریلو استعمال کے لئے، پانی کی ہنگامی فراہمی کے بعد، اور ان ضروری کاموں کی انجام دہی کی غرض سے ۲۴ گھنٹے سے زائد ایسے احاطے کو پانی کی فراہمی معطل نہ کی جائے۔

(۳) جہاں پانی کے منتظم نے کسی ایسے شخص کو شق (ب) کی ذیلی دفعہ (۱) کے تحت نوٹس بھیجا ہو، جو نوٹس کی وصولی کے پندرہ دن کی مدت کے اندر اس کا جواب پیش کرے اور طلب کردہ واجبات کی ادائیگی کے فرض کا انکار کرے، تو پانی کا منتظم پانی کی فراہمی

منقطع کرنے کے اختیار کو استعمال نہیں کرے گا، تاوقت یہ کہ کسی عدالت کے فرمان یا ذمہ داری عائد ہونے کے بعد اتھارٹی اس کی منظوری دے۔

(۴) اگر پانی کا منتظم کسی بھی احاطے کا سروس پائپ منقطع کرے یا بصورت دیگر کسی بھی احاطے کو پانی کی فراہمی کرے جبکہ دفعہ ہذا کے تحت اسے ایسا کرنے کا اختیار نہ ہو یا ایسے سروس پائپ کو منسلک کرنے یا ایسی فراہمی کی بحالی کرنے سے قاصر رہے تو جرم ثابت ہونے پر وہ ایک لاکھ روپے تک جرمانے کا مستوجب ہوگا۔

۲۰۔ انسانی استعمال کے لئے غیر موزوں پانی کی فراہمی کا جرم۔ (۱) ذیلی دفعہ (۲) کے تحت جہاں پانی کا منتظم کسی بھی احاطے کو پائپوں کے ذریعے پانی فراہم کرے اور ایسا پانی انسانی استعمال کے لئے غیر موزوں ہو تو پانی کا منتظم جرم کا مرتکب ہوگا اور جرم ثابت ہونے پر جرمانے کا مستوجب ہوگا جو پانچ لاکھ روپے سے متوازن ہو۔

(۲) جہاں پانی کی فراہمی روکنے کا ذمہ دار شخص یہ نتیجہ نکالے کہ پانی انسانی استعمال کے لئے غیر موزوں ہے اور ایسے غیر موزوں پانی کی فراہمی کی اجازت دینا جاری رکھے، تو وہ شخص جرم کا مرتکب اور جرمانے اور ریاتین ماہ تک قید کا مستوجب ہوگا۔

(۳) دفعہ ہذا کے تحت جرم کی بابت پانی کے منتظم کے خلاف کسی کارروائی میں منتظم یہ ظاہر کر کے اپنا دفاع کرے گا کہ:

(الف) اس شبہ کی کوئی معقول بنیاد نہیں کہ پانی انسانی استعمال میں آنا تھا؛ نیز

(ب) اس نے یہ یقینی بنانے کے لئے تمام موزوں اقدامات اٹھائے اور جاں فشانی سے کام کیا کہ پائپوں کے ذریعے

فراہمی کے وقت پانی انسانی استعمال کے لئے موزوں تھا یا اسے انسانی استعمال میں نہیں لایا گیا۔

۲۱۔ پائپوں کے ذریعے ناکافی یا مضر صحت پانی کی فراہمی۔ (۱) جبکہ۔

(الف) پانی کے منتظم کے لئے قابل جواز لاگت پر قابل عمل نہ ہو کہ وہ پائپوں کے ذریعے صحت بخش پانی فراہم کرے یا اپنے علاقے میں کسی مخصوص احاطے کو صحت بخش پانی کی فراہمی برقرار رکھے جو کہ گھریلو استعمال کے لئے کافی ہو؛

(ب) یہ پانی کے منتظم کے لئے قابل جواز لاگت پر قابل عمل ہو کہ پائپوں کے علاوہ کسی اور ذریعے سے اس احاطے کو گھریلو استعمال کے لئے صحت بخش پانی فراہم کرے؛

(ج) گھریلو استعمال کے لئے پانی کی فراہمی کے مضر صحت یا ناکافی ہونے سے صحت یا زندگی کو خطرہ لاحق ہو؛ نیز

(د) مقامی اتھارٹی پانی کے منتظم کو ایسے خطرے سے مطلع کرے اور پانی کے منتظم سے تقاضا کرے کہ وہ پائپوں کے علاوہ کسی اور ذریعے سے فراہمی عمل میں لائے؛

تو یہ پانی کے منتظم کی ذمہ داری ہوگی کہ مقامی اتھارٹی کے تقاضے کی مطابقت میں ایسی مدت کے

لئے اور جہاں قابل جواز لاگت سے قابل عمل ہو کہ پائپوں کے علاوہ کسی اور ذریعے سے پانی فراہم کرے۔

(۲) دفعہ ہذا میں کسی احاطے کو پائپوں کے علاوہ کسی اور ذریعے سے پانی کی فراہمی کی تصریح کا حوالہ اس صورت میں اثر پذیر

ہوگا کہ بشمول اس احاطے کو پانی کی فراہمی کی تصریح کے حوالہ کے، پائپوں میں یا ان کے بغیر قابل جواز لاگت سے پانی کے منتظم کے لئے ایسے احاطے سے مناسب فاصلے کے اندر کسی مقام کو پانی کی فراہمی قابل عمل ہو۔

۲۲۔ پانی کے براہ راست استخراج کی اجازت۔ (۱) جبکہ:-

- (الف) پانی کے منتظم کے لئے قابل جواز لاگت سے پائپوں کے ذریعے پانی کی فراہمی قابل عمل نہ ہو؛
- (ب) زمینی پانی اس حد تک مضر صحت نہ ہو کہ اس سے کسی شخص کی صحت یا زندگی کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہو؛
- تو پانی کا منتظم ذیلی لائسنس کے ذریعے کسی شخص کو اجازت دے سکتا ہے کہ وہ صرف گھریلو استعمال کے لئے اپنے احاطے کے اندر یا اس کے قرب و جوار میں کسی علاقے سے پانی کا استخراج عمل میں لائے۔

(۲) ذیلی دفعہ (۱) کے تحت جاری کردہ ذیلی لائسنس عمومی یا خصوصی طور پر اتھارٹی کی جانب سے ایسے ذیلی لائسنسوں سے متعلق عائد کردہ کسی شرائط کی مطابقت میں دیا جائے گا۔

(۳) ذیلی دفعہ (۱) کے تحت ذیلی لائسنس کے تحت استخراج کردہ پانی اتھارٹی کی جانب سے جاری کردہ استخراج کے لائسنس کے تحت پانی کے منتظم کو دی گئی استخراج کی مجموعی حد کا جزو قرار ہوگا۔

۲۳۔ پانی کو آلودہ کرنے، زیاں اور غلط استعمال کے جرائم۔ (۱) اگر کسی احاطے کا مالک یا مکین شخص جسے، پانی کا منتظم پانی فراہم کرتا ہو، ارادے یا غفلت سے پانی کی کسی ایسی تنصیبات، جس کا ذمہ دار ہو، کو اس طور غیر فعال کروائے یا رکھے کہ اس کی مرمت ضروری ہو یا اس طور تعمیر یا تبدیل شدہ یا استعمال ہونا ہو۔

(الف) کہ پانی کے منتظم کی بابت مرکزی یا دیگر پائپوں میں ایسے مرکزی پائپ یا پائپ سے منسلک پائپ میں پانی اس احاطے سے اس میں پائپ تک کسی مواد کی واپسی سے آلودہ ہو یا آلودہ ہونے کا امکان ہو؛

(ب) کہ پانی کے ذمہ دار ادارے کی جانب سے ان احاطوں کو فراہم کردہ پانی استعمال سے قبل ہی آلودہ ہے یا اس کا امکان ہو؛

(ج) کہ اس طرح فراہم کردہ پانی ضائع ہو یا اس کا امکان ہو، یا مقاصد جن کے لئے یہ فراہم کیا گیا، کے حوالے سے اس کا غلط یا بے جا استعمال ہو یا اس کا امکان ہو؛

ایسا شخص جرم کا مرتکب ہو گا اور جرم ثابت ہونے پر ایک لاکھ روپے تک جرمانے کا مستوجب ہو گا۔

(۲) کوئی شخص جو پانی کے منتظم ادارے کی جانب سے کسی احاطے کو فراہم کردہ پانی کسی اور مقصد کے لئے استعمال کرتا ہے، اگر دیگر مقصد آگ بھجانا نہ ہو، تو وہ جرم کا مرتکب ہو گا اور جرم ثابت ہونے پر دو لاکھ روپے تک جرمانے کا مستوجب ہو گا۔

۲۴۔ آلودگی اور ضیاع وغیرہ کی روک تھام۔ (۱) حکومت ضوابط کے ذریعے ایسی تصریحات تشکیل دے سکتی ہے جو وہ درج ذیل کسی بھی مقصد کے لئے مناسب سمجھے:-

(الف) اب بات کو یقینی بنانے کے لئے کہ کسی پانی کے منتظم ادارے کے مرکزی یا دیگر پائپوں میں موجود پانی کسی احاطے سے کوئی مادہ شامل ہونے سے آلودہ نہ ہو جائے، اور یہ کہ مخصوص مقاصد کے لئے اس کا معیار اور موزونیت متاثر نہ ہو؛

(ب) کسی پانی کے منتظم ادارے کے پائپوں سے کسی بھی احاطے کو فراہم کرنے کی بابت خارج ہونے کے بعد کسی بھی وقت کسی بھی طرح کے پانی کے ضیاع، بے جا اور غلط استعمال کو روکنے کے لئے؛ اور

(ج) اس بات کو یقینی بنانے کے لئے کہ افراد جنہیں کسی پانی کے منتظم ادارے کی جانب سے پانی سپلائی ہوتا ہو یا کیا جانا ہو، کی جانب سے نصب و استعمال کردہ پانی سے متعلق تنصیبات محفوظ ہوں اور کسی بھی طرح کے پانی یا کسی بھی قسم کے پائپوں میں واپس لوٹنے والے پانی کو خراب نہ کریں یا اس کا باعث نہ بنیں۔

(۲) ذیلی دفعہ (۱) میں مذکورہ اختیارات کی عمومیت پر اثر انداز ہوئے بغیر، دفعہ ہذا کے تحت بنائے گئے ضوابط درج ذیل کے لئے بھی صراحت کر سکتے ہیں:

(الف) پائپ سے متعلقہ اشیاء کی تنصیب، کنکشن یا استعمال روکنے کے لئے اگر وہ ضوابط کے تحت منظور شدہ نہ ہوں یا ان کی خلاف ورزی کریں؛

(ب) اس تقاضے کے لئے کہ نصب کردہ اشیاء ذیلی دفعہ (۲) (الف) کی رو سے وضع کردہ تصریح کے مقصد کے لئے ایسے ساز، نوعیت، مضبوطی یا کارگیری کی حامل ہوں، ایسے مواد یا انداز سے بنائی گئی ہوں یا ان معیارات پر پوری اترتی ہوں جو ضوابط کے تحت تجویز یا منظور کردہ ہوں؛

(ج) ایسی دیگر مقتضیات کے نفاذ کے لئے جو اشیاء کی تنصیب، ترتیب، کنکشن، ٹیسٹنگ، کنکشن منقطع کرنے، تبدیلی اور مرمت نیز ان کی تیاری میں استعمال ہونے والے مواد کے حوالے سے تجویز کردہ ہوں؛

(د) ضوابط کے مقاصد کے لئے درکار منظوریاں مقررہ افراد کی جانب سے دینے، مسترد کرنے یا واپس لینے کے لئے؛ نیز

(ہ) ایکٹ ہذا کے تحت دی جاسکتے والی منظور یوں اور تینج کے لئے۔

(۳) ذیلی دفعہ (۱) اور (۲) میں مذکور کو نقصان پہنچائے بغیر، دفعہ ہذا کے تحت ضوابط:

(و) ان ضوابط کے نفاذ کے حوالے سے الگ الگ یا مشترکہ ذمہ داریاں عائد کر سکتے ہیں؛

(ز) پانی کے منتظم ادارے یا مقامی اتھارٹی کو اختیارات تفویض کر سکتے ہیں تاکہ وہ ان ضوابط کی کسی بھی خلاف ورزی سے نمٹنے کے لئے مخصوص حالات میں اپنے امور سرانجام دیں اور دیگر اقدامات کریں؛

(ح) کسی پانی کے منتظم ادارے یا مقامی اتھارٹی کی جانب سے ان اخراجات کی وصولی کی بابت صراحت کر سکتے ہیں جو مذکورہ بالا ذیلی دفعہ (۳) (ب) کے تحت تفویض کردہ کسی اختیار کو بروئے کار لاتے ہوئے اس پانی کے ذمہ دار ادارے یا مقامی اتھارٹی نے مناسب طور پر کیے؛

(ط) ضوابط کی خلاف ورزی کو قابل سزا جرم قرار دینے کی بابت صراحت کر سکتے ہیں جس کے لئے جرمانہ زیادہ سے زیادہ ۱۰۰۰۰۰ روپے یا اس سے کم رقم، جو بھی متعین کردہ ہو؛

(ی) یہ تقاضا کر سکتے ہیں کہ ضوابط کے نفاذ سے پیدا ہونے والے اختلاف مناسب کیسوں کی صورت میں ثالثی کے لئے بھجوائے جائیں؛ نیز

(ک) مناسب مقدمات میں اپیل کے حق کی صراحت کر سکتے ہیں۔

۲۵۔ نقصان، آلودگی اور ضیاع وغیرہ کی روک تھام کے اختیارات۔۔ (۱) ایکٹ ہذا کے تحت ضوابط کے مطابق پانی کے منتظم ادارے کو تفویض کردہ کسی اختیار پر اثر انداز ہونے بغیر اگر کسی احاطے کو پانی فراہم کرنے والے کسی پانی کے منتظم ادارے کے پاس یہ یقین کرنے کے لئے معقول وجہ ہو کہ:

(الف) ان احاطوں کو پانی کی فراہمی کے لئے استعمال ہونے والی کسی بھی نصب شدہ چیز، جو کہ پانی کے منتظم ادارے کا سروس پائپ نہ ہو، کو پہنچنے والے کسی نقصان یا نقص کے باعث کسی شخص یا املاک کو نقصان پہنچ رہا ہے یا پہنچنے کا امکان ہو؛

(ب) پانی کے منتظم ادارے کے پانی کے مرکزی یا کسی اور پائپ میں ان احاطوں سے کسی مادے کے شامل ہونے سے مرکزی یا کسی اور پائپ کا پانی آلودہ ہو رہا ہے یا ہونے کا امکان ہے؛

(ج) مرکزی یا کسی اور پائپ سے منسلک کسی پائپ میں موجود پانی یا ان احاطوں کو پانی کے منتظم ادارے کی جانب سے فراہم کردہ پانی استعمال سے قبل آلودہ ہو رہا ہے یا ہونے کا امکان ہے؛

(د) پانی، جو کہ اس طرح فراہم کیا گیا ہو یا کیا جانا ہو، ضائع ہو رہا ہے یا ہونے کا امکان ہے، یا جن مقاصد کے لئے یہ فراہم کیا گیا ہو ان کے حوالے سے اس کا غلط یا بے جا استعمال ہو رہا ہے یا ہونے کا امکان ہے؛

پانی کا منتظم ادارہ ذیلی دفعہ (۲) کے تحت تفویض کردہ اختیار ان احاطوں کے حوالے سے استعمال کر سکتا ہے۔

(۲) ذیلی دفعہ (۱) کے حوالے سے اختیارات درج ذیل ہیں:

(الف) اگر معاملہ ہنگامی نوعیت کا ہو تو ان احاطوں کے سروس پائپ کا کنکشن منقطع کرنے یا بصورت دیگر پانی کی سپلائی روکنے کا اختیار؛ اور

(ب) کسی دیگر صورت میں صارف کو نوٹس بھیجنے کا اختیار، جس میں اسے نوٹس میں مذکور اقدامات کرنے کا کہا جائے، جو پانی کے منتظم ادارے کا نظام محفوظ بنانے کے لئے ضروری ہوں اور جن سے نقصان، آلودگی، ضیاع، غلط یا بے جا استعمال رک جائے یا، چاہے جو بھی صورت ہو، وقوع پذیر نہ ہو۔

(۳) جہاں پانی کا منتظم ادارہ ذیلی دفعہ (۲) کی شق (الف) کے تحت تفویض کردہ اختیار کو بروئے کار لاتے ہوئے کسی

احاطے کے سروس پائپ کو منقطع کرتا ہے یا بصورت دیگر کسی احاطے کے لئے پانی کی کسی سپلائی کو بند کرتا ہے تو پانی کا منتظم ادارہ سپلائی کے منقطع یا بند کئے جانے کے بعد معقول طور پر جتنا جلد قابل عمل ہو فرد کو تجویز کردہ اقدامات جن کو پانی کے منتظم ادارہ کی جانب سے اس احاطے کی پانی کی سپلائی بحالی کرنے سے پہلے کرنا ضروری ہو، کانوٹس دے گا۔

(۴) ذیلی دفعہ (۳) کے تحت نوٹس میں تجویز کردہ اقدامات حسب ذیل کو محفوظ بنانے کے اقدامات ہوں گے، جیسی بھی

صورت ہو:

(الف) نقصان، آلودگی، ضیاع، غلط استعمال یا بے جا تصرف؛ یا

(ب) اگر سپلائی بحال کر دی جاتی ہے تو نقصان، آلودگی، ضیاع، غلط استعمال یا بے جا تصرف کا دوبارہ امکان نہیں ہوگا اور پانی کا منتظم ادارہ جو خاطر خواہ وجہ کے بغیر ذیلی دفعہ (۴) کی مقتضیات کی روشنی میں نوٹس دینے میں ناکام ہوتا ہے تو وہ جرمانہ جو کہ دس ہزار روپے سے زیادہ نہ ہوگی کی، فوری سزا کا مستوجب ہوگا۔

(۵) ذیلی دفعہ (۲) کی شق (ب) کی اغراض کے لئے دیا گیا نوٹس:

(الف) مدت جو کہ نوٹس دیئے جانے کے بعد سات دن سے کم نہ ہوگی، جس کے اندر نوٹس میں تجویز کئے گئے اقدامات صارف کی جانب سے کئے جائیں گے، کا تعین کرے گا؛ نیز

(ب) ذیلی دفعہ (۲) اور (۷) کے تحت پانی کے منتظم ادارے کے اختیارات طے کرے گا۔

(۲) جہاں پانی کے منتظم ادارے نے کسی احاطے کے حوالے سے ذیلی دفعہ (۲) کی شق (ب) کے تحت نوٹس دیا ہو، اور:

(الف) کیس ایمر جنسی بن جاتا ہے؛ یا

(ب) احاطہ دیکھنے میں سکونت پذیر نہیں لگتا اور نوٹس میں تجویز کردہ اقدامات مقرر کردہ مدت کے ختم ہونے سے پہلے نہیں کئے جاتے ہیں؛

پانی کا منتظم ادارہ ان احاطوں کے سروس پائپ منقطع کر سکتا ہے یا بصورت دیگر ان احاطوں کو پانی کی سپلائی بند کر سکتا ہے؛ اور جہاں پانی کا منتظم ادارہ اس ذیلی دفعہ کے تحت اختیار استعمال کرتا ہے وہاں ذیلی دفعہ (۳) اور (۴) کا اطلاق ہوگا کیوں کہ ان کا اطلاق وہاں ہوتا ہے جہاں ایسا منتظم ذیلی شق (۲) کی شق (الف) کے تحت اپنا اختیار استعمال کرتا ہے۔

(۷) ایسی صورت جو شق (الف) یا ذیلی دفعہ (۲) کی شق (ب) کے تحت نہ آتی ہو اور پانی کے منتظم ادارہ کی جانب سے

ذیلی دفعہ (۲) کی شق (ب) کے تحت دیئے گئے نوٹس میں تجویز کردہ اقدامات میں سے کوئی اقدام مقررہ مدت کے اختتام تک صارف کی جانب سے نہیں کیا جاتا تو پانی کے منتظم ادارہ کو ایسا اقدام خود سمر انجام دینے کا اختیار حاصل ہوگا اور ذیلی دفعہ (۸) سے مشروط پانی کے منتظم ادارہ کو ان اقدامات کو کرنے میں آنے والے مناسب اخراجات صارف جسے نوٹس دیا گیا، سے وصول کرنے کا اختیار حاصل ہوگا۔

(۸) جہاں ذیلی دفعہ (۷) کے تحت کوئی قدم اٹھایا جاتا ہے اور کیس کے حالات واقعات میں یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اقدامات

ضروری نہیں تھے جیسا کہ ذیلی دفعہ (۲) میں مذکور ہے یا جیسی بھی صورت حال ہو، ذیلی دفعہ (۴)، پانی کا ایسا منتظم ادارہ:

(الف) ان اقدامات پر آنے والے اخراجات کی وصولی کا حقدار نہیں ہوگا؛ نیز

(ب) کسی دیگر شخص جس نے ان میں سے کوئی ایک اقدام کیا ہو، کو اس کی جانب سے ان میں سے کوئی اقدام

کرنے میں مناسب طور پر آنے والے اخراجات کے مساوی رقم ادا کرنے کا مستوجب ہوگا۔

۲۶۔ حفظان صحت کے معیارات۔ (۱) حکومت ضوابط کے تحت ایکٹ ہذا کی اغراض کے لئے تصریحات وضع کر سکتی ہے کہ

کسی احاطے کو فراہم کئے جانے والے پانی کو صحت افزا قرار دیا جائے یا نہیں، اگر یہ اطمینان ہو جاتا ہے یا جو بھی صورت حال ہو، اطمینان نہیں ہو پاتا تو حسب ذیل تصریحات وضع کی جاسکتی ہیں۔

(۲) ذیلی دفعہ (۱) کی عمومیت سے امتیاز برتے بغیر کسی پانی کے حفظان صحت ہونے کا تعین کرنے کے مقصد کے لئے دفعہ

ہذا کے تحت قواعد:

- (الف) پانی کے موزوں ہونے کے مقصد کے لئے عمومی مقتضیات کی صراحت کریں گے؛
- (ب) پانی میں موجود ہونے یا نہ ہونے والے مادہ جات اور ان مادہ جات کے پانی میں موجود ہونے کے ارتکاز کی مخصوص مقتضیات کی صراحت کریں گے؛
- (ج) پانی کی دیگر خصوصیات کی مقتضیات کی صراحت کریں گے؛
- (د) صراحت کریں گے کہ آیا مجوزہ مقتضیات تسلی بخش ہیں اور بحوالہ ایسے نمونہ جات ان کا تعین کیا جاسکتا ہے؛
- (ه) حکومت کو ایسی رعایتیں دینے اور مقررہ مقتضیات میں چھوٹ دینے، کسی شرط سے مشروط کوئی منظوری دینے یا ایسی منظوری یا شرائط کو تبدیل کرنے یا منسوخ کرنے کے قابل بنائے گا؛ اور
- (و) حکومت ذیلی دفعہ (۲) کی شق (د) کے تحت وضع کئے گئے ضوابط کے ذریعے حکومت کو تفویض کردہ کسی اختیار کو بروئے کار لانے کے لئے حکومت یا اس کے ساتھ بالاتصال کی بجائے کسی مقامی اتھارٹی کو مجاز بنانے کے قابل بنائیں گے۔

۲۷۔ پانی کی مرکزی لائنوں وغیرہ کے نقشہ جات۔ (۱) ذیلی دفعہ (۴) سے مشروط اتھارٹی اور پانی کے ہر منتظم ادارے کا فرض منصبی ہو گا کہ وہ حسب ذیل کاریکارد رکھے:

- (الف) پانی کے منتظم ادارہ کی جانب سے استعمال کئے جانے والی ہر مرکزی لائن، پانی کی مرکزی لائن اور ڈسپانچر پائپ؛ نیز
- (ب) زیر زمین کوئی دیگر کام ماسوائے سروس پائپ جن کی ملکیت پانی کے منتظم ادارہ کے پاس ہو یا وہ اسے چلاتا ہو۔

(۲) یہ اتھارٹی اور پانی کے منتظم ہر ادارہ کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ یقینی بنائے کہ وقتی طور پر دفعہ ہذا کے تحت رکھے گئے کسی ریکارڈ کے مندرجات تازہ ترین حالت میں ہیں اور اتھارٹی کے دفتر یا پانی کے منتظم ادارہ یا جو بھی صورت ہو کے مقام پر عوام کے مفت معائنہ کے لئے تمام موزوں اوقات میں دستیاب ہیں۔

(۳) دفعہ ہذا کے تحت درکار کسی معلومات کو اتھارٹی یا پانی کے منتظم ادارہ کی جانب سے عوام کے معائنہ کے لئے دستیاب بنایا جائے گا اور اس کی دستیابی نقشے کی شکل میں کی جائے گی۔

(۴) اس بات کا تعین کرنے کے لئے کہ آیا دفعہ ہذا کے تحت رکھے گئے کسی ریکارڈ جس میں ایسے کام جن کی وجہ ترمیم کرنا ضروری ہو، کی تکمیل کے بعد اس میں درکار ترمیم معقول طور پر جتنا جلد قابل عمل ہو، میں ترمیم کرنے میں کوئی ناکامی بالا ذیلی دفعہ (۱) کے تحت عائد کردہ فرض منصبی کی خلاف ورزی کے مترادف ہے جس میں دفعہ ہذا کے تحت ریکارڈز میں ترمیم کی جاتی ہے، ترمیم کی تاریخ اور ضروری ترمیم کے حامل کام کی تکمیل کو ریکارڈز میں شامل کیا جائے گا۔

(۵) دفعہ ہذا کے تحت پانی کے نگران ادارہ کے فرائض دفعہ ۱۱ کے تحت قابل نفاذ ہوں گے۔

۲۸۔ سیوریج کے کام۔ (۱) ہر ایک سیوریج کا نگران ادارہ کرے گا:

(الف) نکاسی آب کے ایسے نظام، آیا اندرونی یا کسی دوسرے مقام پر، کی بحالی اور بہتری اور اس طرح سے ان کی

صفائی اور دیکھ بھال کرنا جیسے اس علاقے میں مؤثر انداز سے صفائی کو یقینی بنایا گیا ہو؛ نیز

(ب) ان گندے نالوں کو خالی کرنے کے طریق کار کی وضاحت اور گندے نالے کی پائپ لائن یا دیگر ایسے گندے نالوں کی لائنوں کی موثر صفائی۔

(۲) ذیلی دفعہ (۱) کے تحت فرائض کی انجام دہی میں سیوریج کا نگران ادارہ حسب ذیل کام کرے گا:

(الف) فضلے کو نکاسی آب کے نظام میں خارج کرنے کی اجازت دینے کے حوالے سے ان کی موجودہ اور مستقبل کی ذمہ داریاں؛ نیز

(ب) خارج کردہ فضلے کو ٹھکانے لگانے میں معاونت فراہم کرنا۔

۲۹۔ کارکردگی کے معیارات۔ (۱) حکومت ضوابط کے تحت سیوریج سروسز کی فراہمی کے حوالے سے کارکردگی کے معیارات تجویز کرے گی۔

(۲) ذیلی دفعہ (۱) میں تفویض کردہ اختیارات کی عمومیت پر اثر انداز ہونے بغیر، ضوابط میں شامل ہوں گے:

(الف) سیوریج کا نگران ادارہ مجوزہ صورت حال میں لوگوں کو ضوابط کے تحت اپنے حقوق اور فرائض کی معلومات فراہم کرے گا جو کارکردگی کے معیار میں شامل ہوں؛ نیز

(ب) کسی تنازع کو ضوابط کے تحت کسی جماعت کا اتھارٹی کے سپرد کرنے کا حل فراہم کرنا۔

۳۰۔ گھریلو مقاصد کے لئے سیوریج سروسز کی فراہمی۔ (۱) ہر ایک سیوریج کا نگران ادارہ نکاسی آب کی فراہمی کرے گا جو احاطوں کی ڈرینج بالخصوص مقامی علاقوں کے ایک یا زائد افراد نے جو ذیلی دفعہ (۲) کے تحت استحقاق رکھنے والے ہوں، نکاسی آب کی نکاسی آب کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لئے نوٹس دیا ہو۔

(۲) کسی علاقہ کے لئے نکاسی آب کے نظام کی فراہمی کے لئے حسب ذیل افراد کو استحقاق حاصل ہوگا:

(الف) اس علاقے کے حدود کا مالک؛

(ب) ہاؤسنگ اتھارٹی؛

(ج) مقامی حکومت؛ نیز

(د) قواعد میں بیان کردہ کوئی دیگر شخص۔

(۳) اگر درخواست دہندہ مقررہ عرصے میں مین پائپ لائن کی فراہمی پر عائد معقول اخراجات کی سیوریج کے نگران ادارہ

کو حلف نامہ کے ساتھ ادائیگی نہیں کرتا تو یہ سیوریج کے نگران ادارہ کی ذیلی دفعہ (۱) کے تحت اس کی ذمہ داریوں کی خلاف ورزی نہیں ہوگی۔

(۴) سیوریج کے نگران ادارہ اور کسی دیگر شخص کے مابین رقم کی ادائیگی کا کوئی تنازعہ ثالثی کے لئے فرد واحد کے سپرد کیا

جائے گا جس میں سیوریج کے نگران ادارہ اور متعلقہ شخص کے مابین ایک معاہدہ کیا جائے گا اور اس معاہدہ کی عدم تعمیل کی صورت میں تنازعہ کا حتمی فیصلہ اتھارٹی کی جانب سے کیا جائے گا۔

۳۱۔ مقامی اتھارٹیز وغیرہ کی سیوریج کے کام کی کارکردگی۔ (۱) مقامی اتھارٹی کی جانب سے سیوریج کے نگران ادارہ

کے ساتھ اس غرض سے معاہدہ کیا گیا ہو کہ متعلقہ اتھارٹی کے کسی ملحقہ علاقے کے آدھے یا پورے حصے میں معاہدہ کے تحت مذکورہ نگران ادارہ کے نام پر سیوریج کا کام کیا جائے۔

(۲) دفعہ ہذا کے مقاصد کے لئے کئے گئے معاہدات کسی ایسی تصریح پر مشتمل ہوں گے جس پر سیوریج کے نگران ادارہ اور متعلقہ اتھارٹی متفق ہوں مگر متعلقہ اتھارٹی کے علاوہ کسی دیگر شخص کی موجودگی پر اثر انداز ہوں گی جس میں سیوریج کے نگران ادارے کی جانب سے سیوریج کے کام سرانجام دینے یا اس طرح کے کام سرانجام دینے میں کسی رکاوٹ یا مسئلہ سے تحفظ فراہم کیا جائے۔

(۳) دفعہ ہذا کے مقاصد کے لئے کئے گئے معاہدات کے تحت متعلقہ اتھارٹی سیوریج کے نگران ادارہ کے نام پر وہ اختیارات استعمال کرنے کا استحقاق استعمال کرے گی جو سیوریج کے نگران ادارہ کے کام کی انجام دہی شامل ہوں۔

۳۲۔ تجارتی فضلہ۔ (۱) ہر ایک سیوریج کے نگران ادارہ کی یہ ڈیوٹی ہوگی کہ وہ کسی مخصوص علاقے کے احاطوں میں تجارتی فضلہ کے نکاسی آب کے لئے گندے نالے بنانے کا بندوبست کرے یا گندے نالے کی فراہمی کو یقینی بنائی جس کے لئے سیوریج کے نگران ادارے کو ذیلی دفعہ (۲) کے تحت آبادی کو گندے نالے کی مطلوبہ فراہمی کا استحقاق رکھنے والے ایک یا ایک سے زائد افراد کی جانب سے نوٹس دیا گیا ہو۔

(۲) تجارتی فضلہ کے اخراج کے لئے حسب ذیل افراد پائپ کی فراہمی کے حقدار ہوں گے:

(الف) علاقے کی صنعتی حدود کا مالک جس کی مقامی اتھارٹی کی جانب سے منظوری دی گئی ہو؛ نیز

(ب) صنعتی اسٹیٹ کو سنبھالنے والی صنعتی اتھارٹی۔

(۳) ذیلی دفعہ (۱) کے تحت سیوریج کے نگران ادارہ اپنی ذمہ داریوں کی خلاف ورزی نہیں کرے گا اگر:

(الف) کوئی شخص مجوزہ عرصے کے دوران پائپ لائن کی فراہمی پر عائد معقول اخراجات کا سیوریج کے نگران ادارہ کو حلف نامہ فراہم نہ کرے؛

(ب) تجارتی فضلہ اس نوعیت کا ہو کہ وہ سیوریج کے نگران ادارہ کے لئے مشکلات کا باعث بنے جس سے گھریلو صارفین کو ذمہ داریوں کی ادائیگی نہ ہو سکے؛ یا

(ج) سیوریج کے نگران ادارہ کے پائپ لائنوں میں تجارتی فضلہ محفوظ طریقے سے خارج نہ ہو یا اس کو خصوصی انتظام کے تحت علیحدہ کرنے کی ضرورت ہو۔

سیوریج کے نگران ادارہ اور کسی دیگر شخص کے درمیان اخراجات کی ادائیگی کا کوئی تنازعہ تالشی کے لئے فرد واحد کے سپرد کیا جائے گا جس میں سیوریج کے نگران ادارہ اور اس شخص کے مابین معاہدہ کیا جائے گا اور اس معاہدہ کی عدم تعمیل کی صورت میں تنازعہ کا حتمی فیصلے اتھارٹی کی جانب سے کیا جائے گا۔

۳۳۔ تجارتی سلسلہ کے اتصال کو منقطع کرنے کا اختیار۔ (۱) سیوریج کے سلسلہ میں ذمہ دار شخص اس پائپ لے انقطاع

کے لئے پائپ فراہم کر سکتا ہے جس میں تجارتی فضلہ بہتا ہے اگر:

(الف) اگر یہ کہ کسی ضروری کام کے کرنے کے مقاصد کے لئے انقطاع کرنا موزوں ہو؛ نیز

(ب) احاطہ کا قابض وہ تمام واجبات ادا کرنے کا ذمہ دار ہے جو کہ سیوریج انڈر ٹیکر ان احاطہ خدمات کے ضمن میں

ادا کرتا ہے اور وہ شخص اس دن کے آغاز سے ۱۵ دن قبل کے عرصہ میں کام کرنے میں ناکام ہو گیا اور اس

کے بعد اسے ایسا کرنے کے لئے نوٹس کی تعمیل کرائی جاتی ہے۔

(۲) جب سیورٹی انڈر ٹیکر ذیلی دفعہ (۱) کی شق الف کی رو سے اپنے اختیارات استعمال کرتا ہے تاکہ کسی ضروری کام کے کرنے کے مقاصد کے لئے انقطاع کیا جائے۔ یہ صارف کا فرض ہے کہ حسب ذیل کا تحفظ کیا جائے:

(الف) وہ کام معقول حوالگی کے ساتھ سرانجام دیئے جاتے ہیں؛ نیز

(ب) ان امور کی تعمیل کے مقصد کے لئے سات دن سے زائد کسی سروس میں مداخلت نہ ہو۔

۳۴۔ ویسٹ واٹریا تجارتی فضلہ کو براہ راست نمٹانے کی اجازت۔ (۱) جہاں

(الف) سیورٹی پائپس فراہم کرنے کے لئے سیورٹی انڈر ٹیکر کے لئے معقول قیمت پر یہ قابل عمل نہ ہو؛

(ب) پائپس میں ویسٹ واٹریا تجارتی فضلہ کے اخراج کے لئے جو کہ سیورٹی انڈر ٹیکر کی زیر ملکیت نہ ہوں یا عمل

نہ کیا جاتا ہو، کے لئے صنعتی احاطہ کے مالک یا قابض کے لئے یہ قابل عمل اور محفوظ ہو؛ نیز

(ج) لوکل اتھارٹی جس کے رقبہ پر احاطہ واقع ہو تو وہ سیورٹی انڈر ٹیکر کو اجازت دے گا کہ وہ پائپس میں ویسٹ

واٹریا تجارتی فضلہ کو چھوڑ دے جو کہ سیورٹی انڈر ٹیکر کی زیر ملکیت نہ ہو یا اس کی جانب سے عمل نہ کیا جاتا

ہو۔

سیورٹی انڈر ٹیکر کسی ذیلی لائسنس کے ذریعہ کسی شخص کو اجازت دے سکتا ہے کہ وہ ان پائپس میں ویسٹ

واٹریا تجارتی فضلہ چھوڑے۔

(۲) ذیلی دفعہ ۱ کے تحت جاری شدہ ذیلی لائسنس ان شرائط کے مطابق دیا جائے گا جو کہ کمیشن خصوصی طور پر یا عمومی طور

پر ایسے ذیلی لائسنس پر عائد کر سکتا ہے۔

۳۵۔ سیورٹی پائپس۔ (۱) ذیلی دفعہ (۵) کی رو سے یہ اتھارٹی اور ہر ایک سیورٹی پائپس انڈر ٹیکر کا فرض ہو گا کہ وہ اس

مقام کاریکارڈ اور دیگر کوائف کو رکھے:

(الف) ہر ایک بلکل سیورٹی یا ڈسپوزل مین سیورٹی پائپس یا دیگر اشخاص کی جانب سے سیورٹی پائپس انڈر ٹیکر کی اجازت

سے عمل درآمد کیا جائے گا؛ نیز

(ب) سیورٹی پائپس کے علاوہ کوئی دیگر زیر زمین ورکس جو کہ سیورٹی پائپس انڈر ٹیکر کے زیر ملکیت ہیں یا عملدرآمد کیا

جاتا ہے۔

(۲) اس دفعہ کے مقاصد کے لئے ڈرین سیورٹی پائپس یا ڈسپوزل مین کے متعلقہ کوائف، جو کہ اس مقام کے علاوہ ہیں ان کوائف

میں شامل ہوں گے جو کہ:

(الف) آیا یہ ڈرین، سیورٹی یا ڈسپوزل مین اور بہاؤ کی تفصیل جس کی سہولت کے لئے یہ استعمال کیا جاتا ہے یا کیا جائے

گا؛ نیز

(ب) آیا اسے سیورٹی پائپس انڈر ٹیکر کی جانب سے فعال کیا جاتا ہے یا اگر نہیں، آیا اسے سیورٹی پائپس انڈر ٹیکر کی اجازت سے

فعال کیا جاتا ہے۔

نیز اس دفعہ کے تحت سیوریج انڈر ٹیکر کی جانب سے رکھا جانے والا ریکارڈ اس علاقہ کے اندر ہر ایک مقامی اتھارٹی کے علاقہ سے متعلق علیحدہ طور پر رکھا جائے جس کے علاقہ میں کوئی تالاب، سیوریج سپوزل مین موجود ہے اس کے سیوریج انڈر ٹیکر سے ریکارڈ رکھنا مطلوب ہو۔

(۳) یہ ایک سیوریج انڈر ٹیکر کا فرض ہو گا کہ وہ:

(الف) وہ اس دفعہ کے تحت رکھے گئے ریکارڈ کے مندرجات کی نقول اور ان کے ریکارڈز میں کسی قسم کی ترمیمات کی نقول بھی بغیر فیس کے مقامی اتھارٹیز کو فراہم کرے گا تاکہ یہ یقینی بنایا جائے کہ ہر ایک مقامی اتھارٹی جس کے علاقہ میں متعلقہ ریکارڈ ہے وہ تمام وقت اپنے علاقہ سے متعلق ریکارڈ کے مندرجات سے مطلع کرے گا؛ نیز

(ب) تاکہ یہ یقینی بنایا جائے کہ سیوریج انڈر ٹیکر کے کسی بھی آفس میں بغیر کسی واجبات کے عوام کی جانب سے معائنہ کے لئے تمام مناسب اوقات میں اس دفعہ کے تحت سیوریج انڈر ٹیکر کی جانب سے رکھے جانے والے تمام ریکارڈز کے مندرجات موجود ہوں۔

(۴) اس دفعہ کی رو سے رکھی گئی مطلوبہ کسی بھی معلومات کو نقشہ کی شکل میں فراہم کیا جائے گا یا دستیاب بنایا جائے گا۔

(۵) اس چیز کا تعین کرنے کے لئے کے مقاصد کے لئے آیا دفعہ ہذا کے تحت رکھے گئے کسی ریکارڈ میں ترمیم کرنے میں کسی ناکامی سے ڈیوٹی جو کہ ذیلی دفعہ (۱) بلا سے عائد ہوگی، ختم ہوتی ہے جو کہ ترمیم کرنا ضروری ہو نیز جہاں دفعہ ہذا کے تحت رکھے گئے ریکارڈ، میں ترمیم کی جاتی ہے تو ترمیم کی تاریخ اور ورکس تکمیل جس سے ترمیم کرنا ضروری ہو تو اسے ریکارڈز میں شامل کیا جائے گا۔

۳۶۔ انڈر ٹیکرز کے وصولی کے اختیارات۔ (۱) اس ایکٹ کی تصریحات کی رو سے، ہر ایک واٹر انڈر ٹیکر اور ہر ایک سیوریج انڈر ٹیکر کے اختیارات میں حسب ذیل ہیں:

(الف) اس کے امور کو سرانجام دینے کے لئے فراہم کردہ کسی خدمات کے لئے واجبات مقرر کرنا اور سیوریج انڈر ٹیکر کی صورت میں تجارتی فضلہ کی بابت امور سرانجام دینے کے لئے ادا کئے جانے والے واجبات مقرر کرنا؛ نیز

(ب) کسی شخص سے جسے واٹر انڈر ٹیکر یا سیوریج انڈر ٹیکر جو بھی صورت حال ہو خدمات فراہم کرنا ہے یا اس کو تجارتی فضلہ کے امور سرانجام دیتا ہے، سے دفعہ ہذا کے مقرر کردہ واجبات طلب کرنا اور وصول کرنا۔

(۲) ذیلی دفعہ (۱) کے تحت تفویض کردہ اختیارات قابل استعمال ہوں گے:

(ج) انڈر ٹیکرز کی جانب سے:

(i) پانی کی فراہمی کے معاملہ میں پانی کے حصول، کوالٹی میں بہتری اور پانی کو آلودگی سے پاک کرنا

یہاں تک احاطہ کو فراہم کیا جائے، کی لاگت پر غور و خوض کرنے کے بعد پانی کی فراہمی کے

معاملہ میں؛

(ii) سیورٹی یا ویسٹ واٹر کے معاملہ میں اسے لے جانا، ٹریٹمنٹ کرنا، زمین اور پانی کو ویسٹ واٹر سے محفوظ کرنا یہاں تک کہ اسے ٹریٹ کیا جائے، کی لاگت پر غور و خوض کرنا کے بعد سیورٹی یا ویسٹ واٹر کے معاملہ؛ یا

(د) وصولی کی جانے والے افراد کے ساتھ معاہدات کے مطابق یا کی جانب سے۔

۳۷۔ قدر کے مطابق وصولی سے متعلق تصریحات۔ (۱) جہاں اتھارٹی کو یہ مطلوب ہو کہ واٹر انڈر ٹیکرز اور سیورٹی انڈر ٹیکرز کی تنصیب کے حصول کے مقصد کے لئے اور میٹرز اور احاطہ جس میں یہ نصب ہوں، سے کے متعلق دوسری تصریحات وضع کرنے کے مقصد کے لئے سکیم کو فعال کرے گی۔

(۲) حکومت ضوابط کے ذریعے میٹرز کے کنکشن، انقطاع، استعمال، دیکھ بھال، جواز اور میٹرز کی ٹیسٹنگ اور اس سے متعلق دیگر امور کی بابت ایسی تصریح وضع کر سکتی ہے۔

(۳) ذیلی دفعہ (۲) کی عمومیت سے تضاد کے بغیر ضوابط میں حسب ذیل شامل ہو سکتی ہیں:

(الف) صورت حال کو باقاعدہ بنانا یا عمارت یا دیگر احاطہ کے اندرون یا بیرون جہاں میٹر استعمال کیا جاتا ہے، کوئی میٹر یا کوئی پائپس یا ضروری مواد جو کہ کسی واٹر انڈر ٹیکر یا سیورٹی انڈر ٹیکر کے لئے ظاہر ہوتا ہے تاکہ کسی میٹر کے استعمال میں سہولت بہم پہنچانے کے مقصد کے لئے مطلوب ہو؛

(ب) کوئی دیگر تصریح وضع کرنا جو کہ کسی ایسی پائپس یا ضروری مواد سے متعلق حکومت کے لئے مناسب ہو؛

(ج) میٹر سے ریڈنگ کے لئے قانون وضع کرنا جو کہ اس انداز سے ثابت ہو جیسا کہ قانونی تصریح وضع کی گئی ہو، میٹر سے ریڈنگ کے لئے اسی شہادت ہو جیسا کہ پانی کی مقدار فراہم کی گئی ہو یا احاطہ سے سیورٹی انڈر ٹیکر کے پانی کا بہاؤ ہو؛

(د) ادائیگی کے لئے واجبات کی رقم کا تعین کے طریق کار کو مقرر کرنا جہاں یہ ظاہر ہوتا ہو کہ میٹر نے غلط ریڈنگ ہے یا دے سکتا ہے؛

(ه) کسی شخص سے مطلوب ہو کہ وہ واٹر انڈر ٹیکر یا سیورٹی انڈر ٹیکر کی جانب سے ہونے والے اخراجات کی ادائیگی کے لئے واٹر انڈر ٹیکر یا سیورٹی انڈر ٹیکر نہیں ہے جو کہ ان اخراجات کی بابت ضوابط کے تحت کوئی افعال سرانجام دیئے گئے ہوں یا حصہ جات کی ادائیگی کے لئے ہوں؛

(و) قواعد و ضوابط کے تحت واٹر انڈر ٹیکر یا سیورٹی انڈر ٹیکر کی جانب سے کسی کئے گئے فعل کی بابت معاوضہ کی ادائیگی کے لئے قانون وضع کرنا؛ نیز

(ز) ضوابط کے تحت پیدا ہونے والے تنازعات کو ثالثی کے لئے بھیجے گا۔

۳۸۔ واجبات میں تبدیلی کرنے کے لئے ادارہ کے اختیارات۔ ادارہ ایک فرمان کے ذریعے واجبات میں تبدیلی کر سکتا

ہے جہاں یہ چیز پائی جائے کہ انڈر ٹیکر نے:

(الف) معقول وقت میں لاگت کو بڑھایا نہیں ہے؛

(ب) صارفین سے غیر منصفانہ وصولی کی ہے؛ نیز

(ج) صارف کے مقصد کی حمایت میں عمل نہیں کیا گیا ہے۔

۳۹۔ میٹرز میں ٹیمپرنگ کا جرم۔ (۱) اگر کوئی شخص:

(الف) کسی احاطہ میں مقررہ چارجز کی رقم کا تعین کرنے میں کسی واٹر انڈر ٹیکر یا سیوریج انڈر ٹیکر کی جانب سے

استعمال کئے جانے والے میٹر میں اس طور پر مداخلت کرتا ہے کہ اس احاطہ میں پانی کی فراہمی میں یا اس

احاطہ سے پانی کے بہاؤ کے سلسلہ میں میٹر کو رقم ظاہر کرنے یا درست رقم ظاہر کرنے سے روکا جائے؛ نیز

(ب) کوئی امور سرانجام دیتا ہے جسے وہ جانتا ہے کہ ایسے میٹر کی فعالیت پر اثر انداز ہونا ممکن ہے۔ وہ شخص ایک

جرم کا مرتکب ہو گا اور جرمانہ کا مستوجب ہو گا جو کہ پچاس ہزار روپے سے زائد نہ ہو۔

(۲) کوئی شخص ذیلی دفعہ ۱ کے تحت جرم کا مرتکب نہیں ہو گا جب وہ میٹر استعمال کرنے والے انڈر ٹیکر کی مرضی سے کوئی

فعل سرانجام دیتا ہے۔

۴۰۔ پانی کے حصول کے لائسنسز۔ (۱) پانی کے حصول کا لائسنس حسب ذیل تین اقسام کا ہو گا:

(الف) پانی کی فراہمی کے ایک ذریعہ سے پانی کے حصول کا لائسنس؛

(ب) پانی کی فراہمی کے ایک ذریعہ سے پانی کی فراہمی کے دوسرے ذریعہ میں منتقلی کے مقصد کے لئے

لائسنس؛ نیز

(ج) پانی کی فراہمی کے ایک ذریعہ سے ایک دوسرے مقام پر پانی کے اسے ذریعہ میں منتقلی کے مقاصد کے لئے

پانی کے حصول کا لائسنس۔

(۲) پانی کی فراہمی کے ایک ذریعہ سے پانی کے حصول کا لائسنس حسب ذیل سات اقسام میں سے ایک یا زیادہ کا ہو گا:

(الف) واٹر انڈر ٹیکر کی جانب سے صارفین کو پانی کی فراہمی کے لئے پانی کے حصول کا لائسنس؛

(ب) زرعی مقاصد کے لئے پانی کے حصول کا لائسنس؛

(ج) گھریلو مقاصد کے لئے پانی کے حصول کا لائسنس؛

(د) صنعتی مقاصد کے لئے پانی کے حصول کا لائسنس؛

(ه) ماحولیاتی مقاصد کے لئے پانی کے حصول کا لائسنس؛ نیز

(و) درج بالا فہرست کے علاوہ دیگر مقاصد کے لئے پانی کے حصول کا لائسنس۔

(۳) لائسنس کے بغیر کنٹرولڈ واٹرز سے کوئی شخص پانی حاصل نہیں کرے گا۔

(۴) پانی کے حصول کے لائسنسز ایکٹ ہذا کے پہلے جدول میں مندرج اٹھارہ ٹیز کی جانب سے دیئے جائیں گے۔

۴۱۔ لائسنسز کی شرائط و قیود۔ (۱) ایکٹ ہذا کے تحت حصول اور استعمال کا لائسنس مجوزہ فارم میں ہو گا اور مقررہ مدت کے

لئے کارآمد ہو گا۔

(۲) ہر لائسنس کمیشن کی جانب سے دی گئی قیود و شرائط کے تحت ہو گا۔

(۳) ہر لائسنس اس مقام کے لئے فراہم کیا جائے گا جہاں حصول اور استعمال واضح ہو۔

(۴) باوجودیکہ کوئی چیز درج بالا میں شامل ہو، استعمال کے لائسنس میں حسب ذیل شرائط شامل ہوں گی یہ کہ:

- (الف) استعمال شدہ پانی قابل اطلاق ماحولیاتی معیارات کے مطابق ہوگا؛ نیز
- (ب) استعمال شدہ پانی کے نمونہ جات کو میعادی طور پر اکٹھا کیا جائے گا اور ٹیسٹ کیا جائے گا۔
- (۵) کوئی شخص جو کہ اراداً تالا سنسن کی شرائط و قیود کی خلاف ورزی کرتا ہے تو وہ قابل سزا جرم کا مرتکب ہوگا جو کہ زیادہ سے زیادہ دو لاکھ روپے جرمانہ کا مستوجب ہوگا۔

۳۲۔ ماحولیاتی اور تفریحی فراغت۔ (۱) کوئی تجاویز وضع کرنے یا غور و خوض کرنے میں یہ حکومت اور ایکٹ ہذا کے تحت قائم ہر اتھارٹی کا فرض ہوگا:

- (الف) کہ قدرتی حسن اور نباتات اور خطہ کے جانوروں اور ارضیاتی اور طبعی۔ جغرافیائی خدو خال یا خصوصی مفاد میں مزید تحفظ کرنا اور اس میں اضافہ کرنا؛
- (ب) آثار قدیمہ، آرکیٹیکچر اور تاریخی دلچسپی کی عمارتیں، مقامات اور اشیاء کے تحفظ اور انہیں محفوظ بنانے کی خواہش کو اہمیت دینا؛
- (ج) کسی دیہی یا شہری علاقہ یا کوئی ایسا قدرتی حسن، جنگلی جانوروں کا خطہ، خدو خال، عمارتیں، مقامات یا اشیاء کے حسن و جمال یا خوشگواریت کی بابت تجاویز کے اثرات کو مد نظر رکھنا؛ نیز
- (د) قدرتی حسن کی کسی جگہ یا عمارت یا مقام یا آثار قدیمہ آرکیٹیکچرل یا تاریخی دلچسپی مقام پر جانے اور سائی کی عوامی آزادی کے لئے اس کا تحفظ اور دیکھ بھال کی خواہش کو اہمیت دینا۔
- (۲) اس ایکٹ کی رو سے عائد کردہ کوئی دیگر ڈیوٹی سے تضاد کے بغیر، یہ ہر اتھارٹی کا فرض ہوگا:
- (الف) قدرتی حسن کے تحفظ اور اس میں اضافہ کو فروغ دیا جائے؛ نیز
- (ب) نباتات اور خطہ کے جانوروں کا تحفظ کرنا جن کاندی نالوں اور پانی کے بڑے ذخائر پر انحصار ہے۔

۳۳۔ پانی کے تحفظ کے زونز۔ (۱) حکومت کسی مخصوص علاقہ کو بطور پانی کے تحفظ کے زون کے قرار دے سکتی ہے تاکہ کنٹرولڈ وائرڈ زمین کسی زہر آلود چیز، موذی جانور یا آلودگی کی اشیاء کا تدارک کیا جائے یا روکا جائے تاکہ سرگرمیوں کے مخصوص علاقہ میں ان سرگرمیوں کی ممانعت کی جائے یا انہیں محدود کیا جائے جنہیں ایسے پانیوں کی آلودگی پر منتج ہونے پر منظور کیا جاتا ہے۔

(۲) حکومت ضوابط سے حالات کا تعین کر سکتی ہے جس میں ایسی سرگرمیوں کا جاری رہنے کی ممانعت کی جاتی ہے یا اسے محدود کیا جاتا ہے اور سرگرمیوں کا تعین کر سکتی ہے جس کے لئے اسی کوئی ممانعت یا تحدید کا اطلاق ہوتا ہے۔

۳۴۔ تحقیق کا اختیار۔ (۱) اتھارٹی تحقیق کرنے کے مقصد کے لئے ایک یا اس سے زائد افراد کو بطور ٹیکنیکی تشخیص کنندگان کے تقرر کر سکتی ہے آیا ایکٹ ہذا کی رو سے یا اس کے تحت کسی انڈر ٹیکر پر عائد کوئی ڈیوٹی یا دیگر مقتضیات کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے، کی گئی ہے یا کی جانے کا خدشہ ہے۔

(۲) یہ انڈر ٹیکر کا فرض ہوگا کہ تحقیق کے مقاصد کے لئے درج بالا ذیلی دفعہ (۱) کے تحت تقرر شدہ شخص کی جانب سے مطلوبہ امداد فراہم کی جائے۔

(۳) ذیلی دفعہ (۱) کے تحت تقرر شدہ کوئی شخص:

(الف) ذیلی دفعہ (۱) میں مذکورہ ایسی کسی تحقیق کے مقصد کے لئے کسی احاطہ میں داخل ہو سکتا ہے؛

(ب) احاطے کے اندر ایسے معائنوں، پیمائشوں اور کئے گئے ٹیسٹ اور پانی کے ان نمونوں یا کسی اراضی اور اس کی

فٹنگ اور دیگر اشیاء جیسی بھی ضرورت ہو کو لے کر جانا؛ اور

(ج) کسی مناسب وقت پر کسی پانی کے ذمے دار فرد سے نقول کے ساتھ فراہمی کا تقاضہ کرنا، یا ایسے ذمے دار فرد

پر کسی ڈیوٹی یا دیگر عائد کردہ تقاضے کی پیروی کے غرض کے لئے رکھے گئے کسی ریکارڈ کے مواد کا حاصل

لینا۔

(۴) کوئی ذمہ دار جو کہ بالا ذیلی دفعہ (۲) کے تحت عائد کردہ فرض کی ادائیگی میں ناکام رہا ہو، کو قابل سزا جرم مع جرمانہ جو

کہ دو لاکھ روپے تک ہو سکتی ہے کا مستوجب ٹھہرایا جائے گا۔

۴۵۔ قواعد۔ ایکٹ ہذا کے اغراض کے لئے حکومت جریدے میں نوٹیفیکیشن کے ذریعے قواعد وضع کر سکتی ہے۔

بیان اغراض و وجوہ

موجودہ صورتحال میں اسلام آباد میں پانی کے وسائل کا ہنگامی بنیادوں پر مؤثر انتظام انتہائی اہم ہے۔ مذکورہ بیان کردہ تجویز پر عمل درآمد کے ضمن میں ایک جامع قانون سازی درکار ہے جو کہ معاملات مثلاً پانی کے انتظام، اس کی تقسیم، مناسب استعمال، تبدل، ری چارج، انتظام اور پانی کے ذخائر کی قیمت اور ذخیرہ کئے گئے پانیوں سے پانی نکالنا و اخراج جیسے امور کا احاطہ کرے۔

۱۔ بل کا مقصد مذکورہ بالا اغراض کا حصول ہے۔

دستخط /

~~راجہ خرم شہزاد نواز~~

محترمہ نفیسہ عنایت اللہ خان عسک

~~محترمہ غفران خان~~

محترمہ اسماء قدیر

جناب علی نواز اعوان

رکن قومی اسمبلی